گنجینۂ اسرار

بیاض

امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہٗ

جس میں

حضرت علامہ سید انور شاہ صاحب کشمیریؒ کے خصوصی مجربات، مؤثر عملیات
اور زود اثر اوراد و وظائف کو بہ لباس اردو جمع کیا گیا ہے۔

ترجمانی

محمد مظفر الحسن القاسمی

بیت الحکمت دیوبند (یوپی)

باسمه سبحانهٗ

فيه شفآءٌ لِّلناسِ

گنجینۂ اسرار

بیاض

امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب کشمیری نور اللہ مرقدہٗ
جس میں
حضرت علامہ سید انور شاہ صاحب کشمیریؒ کے خصوصی مجربات،
مؤثر عملیات اور زود اثر اوراد و وظائف کو بہ لباس اردو جمع کیا گیا ہے۔

ترجمانی
مظفر الحسن القاسمی

نظر ثانی و اضافات جدیدہ
حضرت مولانا سید انظر شاہ صاحب کشمیری
شیخ الحدیث دار العلوم وقف دیوبند یوپی

جملہ حقوق بحقِ ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	گنجینۂ اسرار
تالیف	امام العصر الشیخ محمد انور شاہ کشمیریؒ
صفحات	۱۷۶
تعداد	......
طابع	احمد خضر شاہ مسعودی
معاون	ڈاکٹر محمد منتظم قاسمی
قیمت	......

ناشر

بیت الحکمت دیوبند ضلع سہارنپور یوپی

بسم اللہ الرحمن الرحیم

میں اپنی اس طالب علمانہ کوشش کو
حضرت علامہ سید محمد انور شاہ الکشمیریؒ کے
گرامی قدر نام کے ساتھ منسوب کرنے
کی سعادت حاصل کرتا ہوں جن کے
فیضانِ علم کی یہ ترجمانی میری نگارش کی
"بسم اللہ" ہے

مظفر الحسن القاسمی غفرلہ

نقاب کشائی یا تلخ نوائی

مولانا سید انظر شاہ

کس قدر عجیب وغریب ہوگا یہ جائزہ بلکہ یہ کہئے کہ بصائر وعبر کا ایک بھیانک مرقع کہ ہماری اس وسیع وعریض کائنات میں سلسلہ کس چیز کا سب سے زیادہ طویل ہے۔ انسان نے سمندر کی تہ میں اتر کر نئ عجائبات کی دریافت میں کیا گل کھلائے، صحراءِ قمر پر قدم رکھ کر کس نئ دنیا، نئے عالم اور اِک نئ کائنات سے آشنا ہوا۔ مریخ اپنے نشیب وفراز میں کیا کچھ لئے بیٹھا ہے اور زہرہ کے مرمریں سینے میں دولتوں کا کون سا خزانہ مستور وپوشیدہ ہے، کھوج، دریافت، کاوش، دوڑ دھوپ، سب ہی کچھ ہو رہا ہے۔ اور سب ہی کچھ ہوتا رہے گا۔ مگر آج تک اس دریافت کی کسی کو نہ سوجھی کہ حقائق کے انکار کا سلسلہ دراز تر ہے یا اقرار کی زنجیر لمبی چوڑی؟ انسان نے کس کس چیز کا انکار کردیا، خدا کا انکار، اس کی بے پناہ قدرتوں کا انکار، اس کے ساتھ علم کا انکار، رزاقیت کا انکار، خالقیت کا انکار، آسمان

کا انکار، نبوت کا انکار، معجزات کا انکار، آسمان سے اتری ہوئی کتابوں کا انکار، قرآن کا انکار، حدیث کا انکار، معصوم فرشتوں کے وجود کا انکار، ماوراء عالم و ماوراء حیات اک نئی زندگی ادراک نئے عالم کا انکار، قیامت کا انکار، جنت کی خوشگواری اور جہنم کی سوزشوں کا انکار، بلکہ انکار کے منحوس بطن سے لاکھوں نامبارک انکار کی پیدائش۔

پس خوب دیکھ لیا جائے کہ انکار کا سلسلہ ہمالیہ کے لمبے چوڑے سلسلہ سے زیادہ دراز ہے اور اس کی گہرائیاں سمندر سے زیادہ عمیق ہیں۔ تو کیا عجب ہے کہ اگر انکار کی اس عام وباء جس کی لپیٹ میں شرق و غرب شمال و جنوب آئے ہوئے ہیں یہی انسان ان حقائق کا انکار کر بیٹھے جن کی حقیقت بداہت کی روشنی سے زیادہ تاباں و تاب ناک تھی۔ افسوس تو یہ ہے کہ بوجہلی کا مرقع یہ انسان لہسن، پیاز، مرچ، ہلدی، گل بنفشہ، گاؤزبان، سپستاں اور عناب سب کی تاثیرات کو کھلے دل سے قبول کرتا ہے۔ یہ ضرب کے الم کو بھی محسوس کرتا ہے اور مفرح القلوب خوشخبری کے اثرات اس کے چہرہ پر گل گوں بن کر جھلکتے ہیں۔ اس کی باصرہ نے آج تک حسین مناظر کے حسن سے گہرے تاثرات کا انکار نہ کیا۔ اس کی شامہ پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو کے انکار کی جرأت نہ کرسکی۔ ذائقہ ان چٹخاروں کا انکار نہیں کر پاتا جس سے اس کے کان و دہن لطف اندوز ہوتے ہیں۔ مگر یہی انسان اگر تسلیم نہیں کرتا تو ان حقائق کو تسلیم نہیں کرتا جو دنیا کی سب سے زیادہ پکی اور سچی حقیقتیں تھیں۔ دل خراش جملوں سے متاثر ہونے والا،

خوش کن باتوں سے سرور و راحت حاصل کرنے والا، حدیث و قرآن اور اوراد و وظائف کی تاثیر کا صاف انکار کرتا ہے۔ کیا خوب ہے اس کائنات کی یہ منفعل مزاج ہستی۔ اس کا علم، اس کی آگہی، اس کا فلسفہ، اس کی منطق، اس کی دانش، اس کی بینش اگر انکار کرتی ہے تو ان ہی حقیقتوں کا جو زبان رسالت سے بیان میں آئیں۔ حالاں کہ اس صادق لہجہ سے بڑھ کر کوئی سچی اور صادق زبان اس کائنات کو میسر نہیں آئی۔

طبیب کا نسخہ، ڈاکٹر کا مجوزہ علاج، پیک شدہ دوائیاں سب معتبر و مستند، لیکن طب روحانی کا دفتر گراں مایہ ہر حیثیت سے ناقابل اعتبار، پس اقرار و انکار کی اس کش مکش سے دو چار ہونے کے بعد کیا صراط مستقیم یہی ہے کہ انکار کے غوغا میں ایک اور صداء کا اضافہ کر دیا جائے؟ نہیں نہیں بلکہ وہ منہاج جو سلامت روی کا جچا تلا معیار ہے، یہ ہوگا کہ بات کو حقیقت پسندانہ انداز سے جانچا اور پرکھا جائے۔ بھلا تعویذ اور گنڈے ورد اور وظیفہ ان کی تاریخیت اور تاثیر کا انکار ان پختہ اور پکی روایات کے باوجود کس طرح ممکن ہے۔ جس کی اطلاع دیتے ہوئے بخاریؒ اور مسلمؒ نے سید الکائنات سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بتایا ہے کہ:

کان رسولَ اللهُ صلی الله علیه وسلم اِذَا اِشْتَکیٰ مِنَّا اِنْسَانٌ مَسَحَهٗ بِیَمِیْنِهٖ ثُمَّ قَالَ "اَذْهِبُ الْبَاسَ رَبَّ

کوئی ہم میں سے بیمار ہوتا تو آپ مریض پر اپنا دستِ مبارک پھیرتے اور یہ دعا فرماتے کہ اے اللہ بیماری کو دور فرما دے مریض کو شفاء کامل بخش، واقعی شفاء دینے

النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ	والی تو آپ ہی کی ذات ہے آپ ہی
الشَّافِیُ لَا شِفَآءَ اِلَّا	شفاء بخش ہیں، آپ کے سوا کس سے
شِفَائُکَ شِفَاءً الا یُغَادِرُ	شفاء مل سکتا ہے ایسا شفاء دیجیے کہ بیماری
سَقَماً.	کا نام ونشان باقی نہ رہے۔

روایت کی راوی، کوئی اور نہیں، نبوت کے گھرانے کی ایک فردِ فرید سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ عربی اسلوب کے مطابق جو پیرایہ بیان اس عفیفہ و محصنہ نے اختیار کیا ہے اس کی صاف دلالت یہی ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول دائمی تھا۔ یہی وہ ”چھو“ ہے جس کا انکار منہ بھر بھر کر کیا جاتا ہے۔ انہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت، حدیث کے یہی دو جلیل القدر امام ان الفاظ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

> ”جب کوئی بیمار ہوتا، یا کسی کے پھوڑے پھنسیاں نکلتیں تو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انگشت مبارک رکھتے اور یہ فرماتے بسمِ اللہِ تُربَتُ اَرضِنَا بِرِیقَةِ بَعضِنَا لِیَشفِیُ سَقِیمُنَا بِاذنِ رَبِّنَا“

دلی مرحوم کے ایک جلیل القدر محدث شیخ عبدالحق المغفور کا اس حدیث پر یہ افادہ بھی سرمۂ نورِ نظر ہے۔

ایں سرے ست از اسرار در	یہ پھوڑے اور پھنسی کا ایک شافی علاج ہے
علاج قروح و جروح آنچہ	عقل وفہم اسکی حقیقت کی دریافت سے
میر سد در نمی باید آں راعقول و	عاجز ہیں اور بات یہ ہے کہ جھاڑ وپھونک

افہام و دُرقیہ ہا و افسوں ہا و آثار میں عجیب تاثیرات ہیں جن کو معلوم نہیں
عجیبہ است کہ ظاہر نمی گردد کیا جاسکتا۔ اشعۃ اللمعات ج۱ ص ۶۷۶

بلکہ حضرت شاہ صاحبؒ نے اس جھاڑ و پھونک کی حقیقت کی دریافت کو ایک بے معنی اور لایعنی کوشش قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ

وگرفتاران تنگنائے طبیعت مبتلاءِ فلسفہ و عقل ان حقائق کی
وتفلسف خواہند کہ طلب حقائق دریافت چاہتے ہیں اور اس کی کوشش
آن کنند و دست و پاء بزنند و میں دست و پا زنی کے باوجود خاک
بداں راہ نیابند (بحوالہ مذکورہ) میسر نہیں آیا۔

فاضلِ دہلویؒ کی اس تنبیہ کا مقصد صاف و صریح یہی ہے کہ ان اسرار پر سچے اعتقاد اور پختہ عقیدہ کے ساتھ عمل کی ضرورت ہے۔ رہی تحقیق حال یا جستجوئے مآل، وہ سکرات عقل کے اس مریض حلقہ کا کام ہے جو دانشور ہونے کا مدعی، لیکن درحقیقت عقل و خرد سے سراسر محروم ہے بلکہ انہیں مبرّا اۃ عنداللہ کی روایت کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ۔

''جب کوئی گھر میں سے بیمار ہوتا تو سید الانس و الجن معوذات پڑھ کر پھونک دیتے،،

بات ابھی کہاں ختم ہوئی۔ بخاریؒ نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرتے ہوئے یہ بھی سنایا ہے کہ انہیں عثمان نے اپنے ایک ورد کا تذکرہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ پھر آپ نے نہ کوئی درد روکنے والی دوائی تجویز فرمائی نہ کسی مخدّر و مسکّن چیز کے

استعمال کا مشورہ دیا۔ فرمایا تو یہ فرمایا کہ:

''اے عثمان اپنا ہاتھ درد کی جگہ رکھ لو اور تین مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر یہ پڑھو'' اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهٖ مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ وَاُحَاذِرُ''

ترجمہ۔ پناہ طلب کرتا ہوں میں اللہ کی عزت وقدرت کی ان بیماریوں کے خوف وشر سے جنہیں میں محسوس کرتا ہوں۔

پڑھنے کی دیر تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق درد کا نام ونشان نہ رہا۔ اس سے آگے روایتوں میں یہ تک موجود ہے کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے دوران سیدنا حضرت جبرائیلؑ آسمان سے جو نسخۂ شفاء لے کر اترے، لطیفہ کی بات یہ ہے کہ اس میں نہ گل بنفشہ تھا، نہ گاؤزبان، مویز منقی کا ذکر تھا نہ تخم خطمی کا۔ اس نسخۂ شفاء میں کیا تھا؟ امام مسلمؒ کے بیان کے مطابق وہی جھاڑ پھونک جس کا انکار شیوہ عقل ہے رہا آثار صحابہؓ کا معاملہ تو اس وضاحت سے خواہی نخواہی یہاں بھی دو چار ہونا پڑے گا کہ حضرات اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خوفناک بیماریوں میں تعویذ لکھتے اور گلوں میں ڈالتے تھے۔

دنیا مجھے کیا کہے گی، خرد فروش یا خرد نواز مجھے کچھ فکر نہیں مگر اپنے اس یقین واذعان کو چھپا نہیں سکتا کہ حذاقت وتجربہ پر مبنی معالجے بیکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن انشاء اللہ آیات ربانی سے ماخوذ تعویذ اور حدیثی دعائیں، اور اوراد واذکار بے اثر ثابت نہیں ہو سکتے۔

حضرت مولانا علامہ سید انور شاہ کشمیری المرحوم جن کی بیاض کی یہ

اردو ترجمانی آپ کے سامنے ہے، ہاروت و ماروت کے واقعہ میں ممدوح کی تحقیق یہی ہے کہ یہ دو فرشتے نبو اسرائیل کے عہد ضلالت میں جب بدقسمتی سے ان کی تمام تر دل چسپیاں سحر و جادو کے ساتھ قائم تھیں۔ آسمانی کتابوں سے ماخوذ علوم علوی کی بالکل ایسی ہی تعلیم دینے کے لئے دنیا میں بھیجے گئے تھے جیسا کہ اسلام میں قرآن و حدیث سے مستنبط تعویذات یا وظائف کا دفتر ہے بہر حال کچھ بھی ہو راقم السطور کے ہیچ و پوچ قلم سے کچھ تیز و تند باتیں جو نکل گئیں وہ دل و دماغ کے اس بار و غبار کو دور و ہلکا کرنے کے لئے تھیں جو ان حقائق کے انکار کرنے والوں کی چیرہ دستیوں کے نتیجہ میں تہ بہ تہ بیٹھ گیا۔ ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام نہ طب جسمانی کا مخالف ہے نہ دواء و پرہیز کا منکر، لیکن بوقت ضرورت طب روحانی کو بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اور اس کا ثبوت بھی احادیث کے گنج گراں مایہ میں موجود ہے۔ جو کچھ لکھا گیا حاصل اس کا صرف اتنا ہی تھا جسے قارئین کرام کے سامنے اس شاعرانہ معذرت کے ساتھ پیش کرتا ہوں

رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف
آج کچھ درد مرے دل میں سوا ہوتا ہے

اکابر دیوبند جنہیں میرے یقین و علم میں منہاجِ نبوت پر جماؤ و استواری کی توفیق سب سے زیادہ میسر آئی وہ لوجہ اللہ ضرورت پڑنے پر جھاڑ و پھونک یا تعویذ و ورد سے بھی کام لیتے۔ المغفور سید حاجی عابد حسین صاحب اور مرحوم میاں سید اصغر حسین صاحب اس فن کی اساسی شخصیتیں گزری ہیں۔ اور آج بھی ان کے خانودہ میں اس فن کی بچی کھچی دولت

موجود ہے۔ ویسے تمام اس سے براہ راست تعلق نہ رکھنے کے باوجود کچھ نہ کچھ دل چسپی ضرور رکھتے تھے۔

حضرت مولانا علامہ سید انور شاہ الکشمیری قدس اللہ سرہ العزیز جو بارہویں صدی کے خاتمہ اور تیرہویں صدی کے نصف کی نادرۂ کار شخصیت ہیں۔ ان کے خصوصی مجربات کی مطبوعہ اور غیر مطبوعہ چیزیں اس ناآشنا نام نشاں ہستی کے پاس ایک بیاض چلی آتی تھی۔ عزیز مولوی مظفر الحسن القاسمی کو خدا جانے کہاں سے اسے منظر عام پر لانے کی سوجھی اور میرا ارادہ ان کے بلیغ اصرار کے سامنے تقریباً معطل ہو کر رہ گیا۔ ان کے خاطر کی عزیز داری میں اب یہ "گنجینۂ اسرار" بلباس اردو نظرِ قارئین ہے۔ میں ان کی اردو ترجمانی کو اپنے ہجوم کار کی بنا پر حرف بہ حرف تو نہیں دیکھ سکتا لیکن ان کے سلیقہ و قرینہ سے واثق امید یہی رکھتا ہوں کہ وہ ۲۱ ہفت خواں کو عبور کرنے میں انشاء اللہ کامیاب رہے ہوں گے۔

گزارش اک یہ بھی ہے کہ اس امانت کو آج تک کاروباری مقاصد کے لئے استعمال نہیں کیا گیا جس ہاتھوں میں یہ مقدس ودیعت پہنچے وہ بھی اس کا خیال رکھیں۔

هذا ما عندی والله یعلم السر والعلن فانه علام الغیوب۔

انظر شاہ کشمیری

خادم التدریس بدار العلوم دیوبند

۱۲/ربیع الثانی ۱۳۹۲ھ

بوقت شب

حکایتِ حال

دینی درس گاہیں اور علم دوست حلقے امام العصر حضرت مولانا علامہ سید انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کے نام نامی سے خوب واقف ہیں۔ یہ واقعہ ہے کہ ایک طالب علم جب کسی درس گاہ میں دینی علوم حاصل کرنے کی غرض سے قدم رکھتا ہے تو ماضی قریب کے جن ممتاز اشخاص و رجال کے ذکر سے اس کے کان آشنا ہوتے ہیں ان میں سرفہرست حضرت علامہ مرحوم کا تذکرہ ہے وسعت علم، تحقیق و ژرف نگاہی، علوم پر یکساں مہارت، خصوصاً بے پناہ قوتِ حافظہ کی بہت سی داستانیں حضرت شاہ صاحبؒ کے ساتھ وابستہ ہیں جنہیں ہمارے اساتذہ و علماء نے شرق و غرب میں پھیلا دیا۔ راقم الحروف بہار یعنی اپنے ''مسقط الراس'' ہی میں ممدوح کی شہرت اور مناقب سے واقف ہو چکا تھا۔ تقدیر کی چارہ سازیاں جب ازہر الہند دار العلوم میں لے آئیں اور تحصیل علم کے مختلف درجات و مراتب سے گزر کر دار العلوم کے دورۂ حدیث میں شرکت کی سعادت میسر آئی تو اپنے استاذ حضرت مولانا سید فخر الدین مراد آبادی المغفور ر کے درس کو حضرت شاہ صاحبؒ کے علوم و معارف کا ایک بحر ذخار پایا۔

موصوف، استاذ جلیل کے تفردات اور تحقیقات کو اس کثرت سے

پیش کرتے کہ ان کے درس پر حضرت شاہ صاحبؒ کی تدریس کا نہ صرف شبہ بلکہ یقین ہوتا۔ اور پھر یہ علمی کاوشیں اس خوبی اور خوب صورتی سے پیش کی جاتیں کہ بقول غالب ع

ذکر اس پری وش کا اور پھر بیاں اپنا

کا حسین منظر سامنے ہوتا

ابھی میں دارالعلوم میں ابتدائی تعلیم ہی کے حصول میں مشغول تھا کہ الاستاذ مولانا سید انظر شاہ صاحب مدظلہٗ (جو حضرت شاہ صاحب مرحوم کی علمی یادگار اور اس عظیم درس گاہ کے ایک ممتاز استاذ ہیں) کی خدمت میں باریابی میری زندگی کا حاصل بن گئی۔ چھ سال سے سفر و حضر میں رفاقت کی بے بہا دولت کے ساتھ ان کے درس سے استفادہ کی سعادت بھی قسام ازلی نے مجھ تیرہ بخت کو عنایت فرمائی۔ اس قرب و یکجائی نے مجھے قلم سنبھالنے کی جرأت دی۔ اور صفحہ قرطاس سے نزدیک کیا۔ موصوف اپنے علمی مشاغل کے ساتھ تبلیغی اسفار کا سلسلہ بھی، رکھتے ہیں۔ ان اسفار میں مسائل کے جواب، علمی الجھنوں کا حل، تفسیری بیان اور طلبِ صادق پر اہل حاجت کو کچھ لکھ کر بھی عنایت فرماتے ہیں۔

حضرت شاہ صاحب مرحوم کی ایک مطبوعہ بیاض ''خزائن الاسرار'' جسے مجلس علمی، ڈابھیل نے شائع کیا، ان کی حرزِ جان ہے۔ جس میں موصوف نے ان تمام ''مجربات شاہی'' کا بھی اضافہ کر رکھا ہے۔ جو غیر مطبوعہ ان کے خانوادہ کی بہترین دولت ہے۔

بلا مبالغہ ان اوراد و وظائف کی تاثیر میں ان لوگوں کی زبانی ہمیشہ سنتا

جو استفادہ کرتے۔ چند ماہ قبل مجھے ایک خیال الہام کی طرح قلب میں محسوس ہوا کہ اگر استاذِ مکرم اجازت دیں تو اردو ترجمانی کے بعد اس گنجینۂ وظائف کو افادیت کے لئے عام کر دیا جائے، مجھے اندیشہ تھا کہ غالباً وہ اس کے لئے آمادہ نہ ہوں، لیکن میری گزارش کو انہوں نے بڑی کشادہ دلی سے قبول کیا۔ بلکہ ان کے مناسب مشورے، زریں ہدایات بھی شامل حال رہیں۔

اس میں شک نہیں کہ حضرت علامہ کشمیری مرحوم کے کسی علمی دستاویز کو اردو میں منتقل کرنا پرخار وادی میں قدم زنی کے ہم معنیٰ ہے، جن اربابِ علم و نظر کو ان کے دقیق پیرایۂ بیان، عالمانہ اسلوب اور فاضلانہ ایجاز و اختصار کا تجربہ ہے وہ ایک طالب علم کی سعی و کوشش کو "جرأت بیجا" ہی کا نام دیں گے، تاہم اپنی کوتاہی، علمی قصور، قلم کی شکستگی اور زبان و بیان کے عجز کے اعترافِ کامل کے ساتھ اس اخلاص کی پشت پناہی حاصل کرتے ہوئے جو اس اہم کام کا قوی محرک تھا۔ یہ عجالہ پیش خدمت ہے باتمکین ناظرینِ کرام سے اعتراض وطعن زنی کی توقع نہیں بلکہ عفو وصفح کی آرزو میرا سرمایۂ زندگی ہے۔

خدائے ذوالمنن سے کیا بعید ہے کہ میری اس حقیر خدمت کو اس کی بے نیاز جناب میں شرفِ قبولیت حاصل ہو۔ اور اس طرح میں بھی اس محدث جلیل کے خوشہ چینوں میں اپنی بساط کے مطابق شریک کر لیا جاؤں۔ جن کے مآثر علمیہ کا خزانہ عامرہ درس گاہوں کی بہترین دولت ہے۔

وما ذلک علی اللہ بعزیز

مظفر الحسن غفرلہ القاسمی

۱۴/۴/۱۳۹۲ھ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

۱- حفاظتِ ایمان

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے۔ اس کی حفاظت ہر مسلمان کا محبوب فرض ہونا چاہیئے۔ بعض اکابر اولیاء کرام سے منقول ہے کہ جو شخص مغرب کے بعد کی دو سنتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورۂ فلق اور دوسری رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورۂ والناس ہمیشہ پڑھا کرے تو اس کا ایمان بھی محفوظ رہے گا۔ اور خاتمہ ایمان پر ہوگا۔

حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کی دولت میسر آنے پر ہمیشہ خدائے تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا رہے گا، اس کا ایمان بھی محفوظ رہے گا اور خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ بلکہ خدائے تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق کہ ”لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَاَزِیْدَنَّکُمْ“ کہ اگر تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم ان نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔

خدائے تعالیٰ کے اس وعدے کے مطابق ایمان میں قوت اور ایمانی کاموں میں برکت ہوگی۔ انشاء اللہ۔

۲- اعمال خیر میں مشغولیت

جمعرات کی شب میں نصف رات کے بعد باوضو دو رکعت نماز پڑھے پھر یہ آیت چینی کی پلیٹ پر گلاب و زعفران سے لکھ کر برتن کو پانی سے دھوئے دوبارہ ان آیات کو سات مرتبہ پڑھ کر اس پانی پر دم کرے نیز بعد نماز صبح ایک مرتبہ سورۂ اَلَمْ نَشْرَحْ پڑھ کر اس پانی پر دم کرے اور اسے پی لے اور اعمال صالحہ کی توفیق کی دعا کرے اگر کسی دوسرے کو جو نیک اعمال میں کوتاہ ہو یہی پانی پلائے۔ جو آیات پڑھنا ہیں وہ یہ ہیں:

قُلْ ادْعُوا اللّٰہَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ط اَیًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَہٗ
اَسْمَآءُ الْحُسْنٰی ج وَلَا تَجْہَرْ بِصَلَاتِکَ وَلَا تُخَافِتْ
بِہَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذٰلِکَ سَبِیْلًا ○ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ
لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ یَکُنْ لَّہٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلْکِ
وَلَمْ یَکُنْ لَّہٗ وَلِیٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَکَبِّرْہُ تَکْبِیْرًا ○

۳- زیارتِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

باطہارت قبلہ رو ہو کر سر داہنے ہاتھ پر رکھ کر سوئے اور یہ دعا پڑھے:

اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ بِجَلَالِ وَجْہِکَ الْکَرِیْمِ اَنْ
تُرِیَنِیْ وَجْہَ نَبِیِّکَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم
اَوْ اَجْمَعْ بَیْنِیْ وَبَیْنَہٗ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ فِی الدَّرَجَاتِ

الْعُلٰى اٰمِيْنَ. وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهٗ بِرَحْمَتِكَ يَا
اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ٥

اس کے بعد ایک ہزار مرتبہ سورۂ اِنَّـا اَعْـطَيْـنَـا كَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْاَبْتَرُ پڑھ کر سو جائے یہ عمل طالبِ زیارتِ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے مجرب ہے۔

۲- شب جمعہ میں ایک ہزار مرتبہ درود شریف اور ایک ہزار مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کر سونے سے آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔

۴- ایمان پر خاتمہ

جو شخص ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی عادت کر لے انشاء اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔

”رَبَّـنَـا لَاتُـزِغْ قُـلُـوْبَـنَـا بَعْدَ اِذْهَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ
لَّدُنْكَ رَحْمَةً ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ“

۵- وساوس شیطانی سے حفاظت

بروز جمعہ طلوع آفتاب کے وقت یہ آیت سات کاغذوں پر لکھ کر روزانہ ایک کاغذ کی گولی بنا کر پانی کے ساتھ نگل لے۔ انشاء اللہ وساوس اور شیطان کے پیدا کردہ تفکرات سے محفوظ رہے گا۔ آیت یہ ہے:

وَاِمَّـا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۚ

اِنَّهٗ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ ٥ اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ
مِّنَ الشَّیٰاطِیْنِ تَذَکَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ ٥

۲۔ جس کے دل میں وسوسہ شیطانی پیدا ہوتا ہو وہ اس دعا کو بکثرت پڑھے ''رَبِّ اَعُوْذُبِکَ مِنْ ھَمَزَاتِ الشَّیْطَانِ وَاَعُوْذُبِکَ رِبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنَ ٥''

یہ عمل بکثرت گناہوں کی طرف طبیعت متوجہ رہنے اور برائی کے خیال کو دل میں آنے سے روکنے میں مجرب ہے۔

۱۔ قرآن کریم کی دو سورتیں تمام مقاصد دین و دنیا کے لئے بے حد کارآمد، مجرب، اور آزمودہ ہیں، سورۂ ''والضحیٰ'' اور ''الم نشرح'' پڑھنے کا طریقہ یہ ہے بعد فجر یا بعد نماز عشاء اول وآخر درود شریف تین تین بار، اگر کوئی شخص آنے والا اور ماضی کے مقابل زیادہ تابناک وروشن چاہتا ہے، تو سورۂ والضحیٰ کو ایک بار پڑھے اور آیت وَلَا الْاٰخِرَۃُ خَیْرٌ لَّکَ مِنَ الْاُوْلٰی کو ۲۱ بار پڑھے۔

۲۔ اگر دنیا اور دین کی ہر خیر کی طلب ہے تو ان ہی دونوں وقتوں میں اول وآخر درود شریف تین تین بار ''سورہ'' والضُّحیٰ ایک بار وَلَسَوْفَ یُعْطِیْکَ رَبُّکَ ۲۱ بار پڑھے۔

۳۔ اگر کوئی غلط راستہ پر چل پڑا یا غیر شرعی زندگی اختیار کر لی اور اسے سیدھی راہ پر لانا ہو تو، تو اسی طریقہ پر پڑھے۔ لیکن وَوَجَدَکَ ضَآلًّا

فَھدیٰ" کو ۲۱ بار پڑھے مٹھائی یا پانی پر دم کر کر کے استعمال کرایا جائے۔

۴- اگر مال دنیا مطلوب ہے تو اسی ترکیب کے ساتھ وَوَجَکَ عَائِلاً فَاَغْنٰی ۲۱ بار پڑھے۔

خواص سورہ "الم نشرح"

۱- بعد نماز عشاء یا بعد نمازِ فجر اولاً و آخراً درود شریف تین مرتبہ سورہ اَلَمْ نَشْرَحْ ایک بار وَوَضَعْنَا عَنْکَ وِزْرَکَ الَّذِیْ اَنْقَضَ ظَھْرَکَ ۲۱ بار پڑھنا، ہر غم ہر پریشانی سے قرض وغیرہ کی ادائیگی کے لئے مفید ترین ہے، پڑھتے ہوئے اپنی پریشانی کا تصور کرتے رہیں۔

۲- اگر نیک شہرت مطلوب ہو تو اسی ترتیب کے ساتھ وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ ۲۱ مرتبہ پڑھنا اور اپنے مقصد کا تصور کرنا۔ بہت فائدہ مند ہے۔

۳- اگر مشکلات میں الجھا ہوا ہو اور ان سے گلوخلاصی مطلوب ہو تو اسی ترتیب سے سورہ اَلَمْ نَشْرَحْ پڑھے اور فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً اِنَّ مع الْعُسْرِ یُسْراً کو ۲۱ مرتبہ پڑھے اپنی پریشانی کا تصور اور اس کا حل کا یقین ذہن میں ہو، بہت جلد حل چاہتا ہو، تو ۲۱ بار اس کا اضافہ بہت مفید ہوگا فَسَھِّلْ یا اِلٰھِیْ کُلَّ صَعْبٍ بِحُرْمَۃِ سیدِ الْاَبْرَارِ سَھِّلْ اگر بعجلت حل مشکلات چاہتا ہو تو ۲۱ بار اس کا اضافہ کرے اَللّٰھُمَّ اُلْطُفْ بِیْ فِیْ تیسر کُلِّ عسیرٍ فَاِنّ تیسراً علیک کُلِّ عسیر علیک یسیرٌ ط

اگر کسی شخص کی کمر میں درد ہو تو بشکل تعویذ، وَوَضَعْنَا عَنْکَ وِزْرَکَ الَّذِیْ اَنْقَضَ ظَهْرَکَ تین مرتبہ لکھ کر درد کی جگہ باندھے، انشاء اللہ مزیلِ درد ہوگا۔

خواص سورہ ''انا انزلناہُ''

برائے سلامتی دین و دنیا سلامتی عزت و آبرو سلامتی مال و دنیا بعد نمازِ عشاء اول و آخر درود شریف تین بار، سورہ انا انزلنا ○ مکمل اور سلامٌ ھی حتیٰ مطلع الفجرِ ۴۱ بار پڑھے۔

۶- عذاب جہنم سے حفاظت

۱- اگر آپ بعد نماز فجر، سات بار اَللّٰھُمَّ اَجِرْنِیْ مِنَ النَّارِ اور بعد نماز مغرب بھی اسی کو برابر پڑھیں تو اس دن اور اس رات میں وفات کی صورت میں عذاب جہنم سے حفاظت ہوگی، انشاء اللہ۔

نیز بعد فجر و بعد مغرب سات سات مرتبہ اللّٰھم اِنِّیْ اَسْئَلُکَ الجنَّةَ الفِرْدَوْسَ پڑھنے سے حصولِ جنت بھی یقینی ہے انشاء اللہ۔

۳- جو شخص ان آیتوں کو برابر پڑھنے کا اہتمام کرے گا وہ عذاب جہنم سے محفوظ رہے گا انشاء اللہ۔

''حٰمٓ تَنْزِیْلُ الْکِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْعَلِیْمِ ○ حٰمٓ
تَنْزِیْلٌ مِّنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ○ حٰمٓ عٓسٓقٓ حٰمٓ

وَالْكِتَابِ الْمُبِيْنِ ۝ حٰمٓ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ
اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ۝ حٰمٓ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ
الْحَكِيْمِ ۝”

۷- برائے شفاعت

ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کا معمول آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہونے کا قوی ذریعہ ہے۔

لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ الرَّحِيْمِ ۝ فَاِنْ
تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝

۸- عذاب قبر سے حفاظت

بعد نماز عشاء سورۂ ملک کا مکمل ایک بار پڑھنا انشاءاللہ عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔

۲- سورۂ یٰسین کی تلاوت بھی عذابِ قبر سے نجات دلاتی ہے۔

۹- تجارت میں برکت

جمعرات کے دن یہ آیات ہرن کی جھلی پر لکھ کر کپڑے میں لپیٹ

کر دو کان کے دروازے کی چوکھٹ اور اگر باغ ہے تو باغ کی زمین میں دفن کرنے سے بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔

"اَوْ کَالَذِیْ مَرَّ عَلٰی قَرْیَةٍ وَهِیَ خَاوِیَةٌ عَلٰی
عُرُوْشِهَا قَالَ اَنّٰی یُحْیٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَاَمَاتَهُ
اللّٰهُ مِأَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهٗ قَالَ کَمْ لَبِثْتَ ط قَالَ لَبِثْتُ
یَوْماً اَوْ بَعْضَ یَوْمٍ ط قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ
اِلٰی طَعَامِکَ وَشَرَابِکَ لَمْ یَتَسَنَّهْ وَانْظُرْ اِلٰی
حِمَارِکَ وَلِنَجْعَلَکَ اٰیَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَی
الْعِظَامِ کَیْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَکْسُوْهَا لَحْماً ط فَلَمَّا
تَبَیَّنَ لَهٗ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٍo"

۲- ان آیتوں کو لکھ کر سامان تجارت میں رکھنا خیر و برکت کا باعث ہے۔

"اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ
بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط یُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ فَیَقْتُلُوْنَ
وَیُقْتَلُوْنَ وَعْداً عَلَیْهِ حَقاً فِیْ التَّوْرَاةِ وَالْاِنْجِیْلِ
وَالْقُرْآنِ ط وَمَنْ اَوْفٰی بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا
بِبَیْعِکُمُ الَّذِیْ بَایَعْتُمْ بِهٖ ط وَذالِکَ هُوَ
الْفَوْزُ الْعَظِیْمُo"

۳- کاروبار کی ترقی کے واسطے ان آیتوں کو زیتون کے چار پتوں پر لکھ کر مکان یا دو کان کے چاروں کوشوں میں دفن کر دے تو انشاء اللہ

خریداروں کی کثرت ہوگی۔

الٓمّٓرٰ تِلْکَ اٰیٰتُ الْکِتٰبِ ط وَالَّذِیْٓ اُنْزِلَ اِلَیْکَ
مِنْ رَّبِّکَ الْحَقُّ وَلٰکِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ اَللّٰہُ
الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَھَا ثُمَّ اسْتَوٰی
عَلَی الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ط کُلٌّ
یَّجْرِیْ لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ط یُدَبِّرُ الْاَمْرَ یُفَصِّلُ الْاٰیٰتِ
لَعَلَّکُمْ بِلِقَآءِ رَبِّکُمْ تُوْقِنُوْنَ ○ ھُوَ الَّذِیْ مَدَّ الْاَرْضَ
وَجَعَلَ فِیْھَا رَوَاسِیَ وَاَنْھٰرًا وَمِنْ کُلِّ الثَّمَرٰتِ
جَعَلَ فِیْھَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِی الَّیْلَ النَّھَارَ ط اِنَّ فِیْ
ذٰلِکَ لَاٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَکَّرُوْنَ ○

۴۔ جمعرات کے دن باوضو اس آیت کو لکھ کر مکان یا دوکان کے دروازے پر لٹکانے سے خیر و برکت ہو۔

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللّٰہِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَآءُ وَاللّٰہُ وَاسِعٌ
عَلِیْمٌ ○ یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِہٖ مَنْ یَّشَآءُ وَاللّٰہُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِیْمِ ○

۵۔ جو شخص جمعہ کے دن بعد عصر آیۃ الکرسی تین سو تیرہ مرتبہ پڑھے تو ایسی خیر و برکت ہو کہ جس کا وہم گمان بھی نہ ہو۔

۶۔ بعد فراغت نمازِ جمعہ اس آیت کو لکھ کر مکان یا دوکان میں رکھنے سے خیر و برکت اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ مَكَّنَّا كُمْ فِي الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا
مَعَايِشَ قَلِيْلاً مَّا تَشْكُرُوْنَ ط

۷- یہ آیت سیب کے ٹکڑے پر لکھ کر خزانہ میں رکھ دے انشاء اللہ بہت برکت ہوگی۔

ذالکَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ط

برائے حصول رزق

۱- ہر فرض نماز کے بعد اگر ممکن ہو ورنہ بعد فجر اور بعد عشاء اول و آخر درود شریف تین مرتبہ پڑھیں پھر ۴۱ بار یہ دعا پڑھیں مجرب ترین ہے۔

اَللّٰھُمَّ اُرْزُقْنِیْ رِزْقاً واسعاً حَلالاً طَیِّباً مبارکا ط
والحمد للہ شکراً.

۲- ہر فرض نماز کے بعد خصوصاً بعد فجر و عصر درود شریف اول و آخر تین مرتبہ پڑھیں، پھر ۴۱ بار یہ دعاء حصول رزق کے لئے زود اثر ہے۔

یَاغَیَاثَ الْمُسْتَغِیْثِیْنَ اَغِثْنِیْ وَیَارَزَّاقُ اُرْزُقْنِیْ رِزْقاً
بِغَیْرِ حِسَابٍ ط

۳- سورہ مزمل کے خواص کا احاطہ کرنا مشکل ہے اگر کوئی بے روزگار درج ذیل ترکیب کے ساتھ سورۃ مزمل کو مسلسل پڑھے تو غیب سے رزق کے غیر محدود انتظامات ہوں گے۔ ترتیب یہ ہے۔

بعد سنت فجر اول و آخر درود شریف تین مرتبہ پڑھیں ایک بار

سورہ مزمل رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا اِلٰہ اِلَّا ھُوَ فَاتَّخِذْہُ وَکِیْلاًط تین مرتبہ پڑھیں اس کے بعد "حَسْبُنَا اللّٰہُ وَنعم الوکیل نعم المولیٰ ونعم النَّصِیْرُ" تین مرتبہ پڑھیں واللہ یُقَدِّرُ الیلَ وَالنَّھَار تین مرتبہ پڑھیں یَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰہِ وَرِضْوَاناً تین مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ تین مرتبہ پڑھیں اور بعد میں تین بار وَاسْتَغْفِرُ اللّٰہِ الْعَظِیْمَ لَا اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَاَتُوْبُ اِلَیْہِ پڑھیں۔

پھر ۵ فرض نماز کے بعد ۲ بار سورہ مزمل پڑھیں ہدایت بالا کے مطابق، اس طرح یہ سورت دن میں ۱۱ مرتبہ ہو جائے گی، وسعتِ رزق کے لئے، اس سے زیادہ مؤثر کوئی وظیفہ نہیں۔

خواص حزب البحر

عجیب اور مؤثر ترین حزب ہے اور ہر مقصد کے لئے کار آمد ہے اس کی زکاۃ کی ادائیگی کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ایک سال بلاناغہ پڑھنے سے عامل ہو جائے گا اور پھر اس کے خواص ظاہر ہوں گے اسے عصر کے بعد پڑھنا مفید ترین ہے۔ یہ ممکن نہ ہو تو کسی بھی وقت پڑھ لے، اگر کسی دن پڑھنا ممکن نہ ہو تو دوسرے وقت قضاء ضرور کر لے۔

اولاً تین بار سورہ "اخلاص" پڑھ کر مصنف حزب البحر کو ایصال ثواب کیا جائے، پھر اولاً و آخراً تین بار درود شریف پڑھے پھر "الف" سے

تا ''ی'' حروف تہجی پڑھے پھر حزب البحر شروع کرے، اگر دشمن کے مقابلے میں نصرت مطلوب ہے تو اُنصُرنَا فانک خیر الناصرین '' کو ۱۱ بار پڑھے، اگر اعداء کے مقابل فتح چاہتا ہے تو وَافْتَحْ لَنَا فَاِنَّکَ خَیْرُ الْفَاتِحِیْنَ ۱۱ بار پڑھے۔ فراخی رزق مطلوب ہے تو وَارْزُقْنَا فَاِنَّکَ خَیْرُ الرَّازِقِیْنَ ۱۱ بار پڑھے اور هَبْ لَنَا رِیْحً طَیِّبَۃً الخ بھی ۱۱ مرتبہ پڑھے اگر حفاظت جان مال و اہل وعیال مطلوب ہو تو اِحْفَظْنَا فَاِنَّکَ خَیْرُ الْحَافِظِیْنَ ۱۱ مرتبہ پڑھے اور فَاللّٰہُ خَیْرٌ حَافِظاً وَّھُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ ۱۱ بار پڑھے۔ اگر دشمن ہجوم کریں تو نَجِّنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ۱۱ بار پڑھے اور اس کے بعد سَلَامٌ عَلٰی نُوْحٍ فِی اَلْعَالَمِیْنَ ۱۱ بار پڑھے پھر بدستور حزب کو مکمل کرے۔

حاسدین کے حسد وشر سے حفاظت

بعد نماز فجر ومغرب تین بار یہ دعاء پڑھ کر دونوں ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیر لئے جائیں، حاسدین کے شر سے مکمل حفاظت ہوگی انشاء اللہ۔

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللّٰہِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یشاء واللّٰہُ ذُوالْفَضْلِ العظیم.

دشمنوں سے حفاظت

بعد نماز ظہر اولاً وآخراً تین بار درود شریف پڑھ کر سورہ لِاِیْلٰفِ

مکمل پڑھے اور آمنھُمْ مِنْ خَوْف پر اپنی انگشت شہادت کی اس یقین کے ساتھ کہ دشمن کے قلب پر ضرب لگا رہا ہوں، انگشت شہادت کو زور سے حرکت دے، یہ عمل اکسیر و تیر بہدف ہے۔

چوروں سے حفاظت

۱- بعد نمازِ عشاء اولاً و آخراً درود شریف تین بار پڑھے پھر قُل ادْعُوْا اللّٰہَ اَوِ ادْعُوْا الرحمن اَیًّاماً تَدْعُوْا فلَہُ الاَسْمَاءُ الحُسْنٰی وَلَا تَجْھَرْ بصلاتِکَ وَلَا تُخَافِتْ بِھَا وَابْتَغِ بَیْنَ ذالِکَ سَبِیْلاً ط وقُلِ الْحَمْدُللّٰہ الذِیْ لَمْ یَتَّخِذْہٗ ولداً وَلَمْ یَکُنْ لَّہٗ شَرِیْکٌ فِی الْمُلکِ وَلَمْ یَکُنْ لہٗ وَلِیٌّ مِنَ الذُّلِّ وَ کَبِّرْہُ تَکْبِیْراً ط

اس کے بعد تین بار ”اللہ اکبر“ پڑھے، دونوں ہتھیلیوں پر دم کر کے مشرق مغرب شمال وجنوب، ہر چہار جانب تالیاں بجائے اور اگر ان ہی آیات کو تعویذ بنا کر اپنے سامان یا دوکان و مکان وغیرہ میں رکھ دے تو نہ چور آئیں گے نہ چوری ہوگی انشاءاللہ دوامی طور پر آزمودہ ہے۔

۲- اگر کوئی خوفناک اطلاع یا دشمنوں کی جانب سے دھمکی پہونچے تو تین بار حَسْبُنَا اللّٰہُ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ وَنِعْمَ المَوْلٰی وَنِعْمَ النَصِیْرُ پڑھنے سے دشمن کوئی ایذا نہیں پہونچا سکیں گے۔ انشاءاللہ۔

۳- درج ذیل عمل حفاظت جان و مال کے لئے تیر بہدف ہے، مشائخ کا آزمودہ اور عاملین کے یہاں مقبول ترین رہا ہے، اس سے حفاظتِ کلی

حاصل ہوتی ہے یعنی سحر و جادو، قزاق و حملہ آور، چور وڈاکو، غرضیکہ اس کا عامل اگر بصدقِ نیت عمل کرتا ہے تو ہر نقصان سے محفوظ رہے گا، انشاء اللہ۔

اولاً — اَلَمْ تَرَ اِلَى الْمَلَاِ مِنْ م بَنِیْ اِسْرَائِیْلَ مِنْ م بَعْدِ مُوْسٰی اِذْ قَالُوْا لِنَبِیٍّ لَّهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ قَالَ هَلْ عَسَیْتُمْ اِنْ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ لَا تُقَاتِلُوْا، قَالُوْا وَمَا لَنَا اَلَّا نُقَاتِلَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِنْ دِیَارِنَا وَاَبْنَآئِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا اِلَّا قَلِیْلًا مِّنْهُمْ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ بِالظّٰلِمِیْنَ ○ ایک بار پڑھ کر اپنی داہنی جانب دم کریں۔

۲— لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذِیْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ فَقِیْرٌ وَّ نَحْنُ اَغْنِیَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوْا، وَقَتْلَهُمُ الْاَنْبِیَاءَ بِغَیْرِ حَقٍّ وَّنَقُوْلُ ذُوْقُوْا عَذَابَ الْحَرِیْقِ، ایک بار پڑھ کر اپنے سامنے دم کریں۔

۳— اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِیْنَ قِیْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَیْدِیَكُمْ وَاَقِیْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِیْقٌ مِّنْهُمْ یَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْیَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْیَةً وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَیْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا اَخَّرْتَنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِیْبٍ، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْیَا قَلِیْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَیْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِیْلًا ط ایک بار

پڑھ کر اپنی بائیں جانب دم کریں۔

۴- وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَیْ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبْنَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ، قَالَ لَاَقْتُلَنَّکَ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ. (پ۶ رکوع ۸ آیۃ ۲۶)

ایک بار پڑھ کر بجانب آسمان دم کریں۔

۵- سورۂ مزمل ان ربک یعلم انک تقوم ادنیٰ من ثلثی الیل سے لے کر اس سورۃ کے آخر تک یعنی وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ تک ایک بار پڑھے اور اپنی پشت کی جانب دم کرے، یہ عمل بعد نماز فجر اور بعد نماز مغرب پڑھا جائے گا اور اول و آخر تین تین بار درود شریف پڑھے۔

۱۰- کشائشِ رزق

"مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اَحْمَدُ رَسُوْلُ اللّٰهِ" جو شخص بعد نمازِ جمعہ پاک صاف ہو کر پینتیس مرتبہ یہ لکھ کر اپنے پاس رکھے خدائے تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا۔

۲- ہر نماز کے بعد سو مرتبہ اسم باری تعالیٰ "یَا لَطِیْفُ" پڑھ کر ایک مرتبہ اَللّٰهُ لَطِيْفٌ بِعِبَادِهٖ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْزُ

پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔

۳۔ بعد نماز فجر و مغرب سو مرتبہ ''یَا لَطِفُ'' پڑھ کر تین مرتبہ یہ دعا پڑھنا رزق کے لئے نہایت مفید ہے۔

اَللّٰھُمَّ وَسِعْ علیّٰ رِزْقِیْ اَللّٰھُمَّ عَطِفْ عَلَیَّ خَلْقَکَ
کَمَا صُنْتَ وَجْھِیْ عَنِ السُجُوْدِ لِغَیْرِکَ فَصُنْہُ
عَنْ ذِلِّ السَّوَالِ لِغَیْرِکَ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمُ
الرَّاحِمِیْنَ ٥

۴۔ جو شخص اس دعا کو پانچوں وقت نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنالے گا خصوصاً نماز جمعہ کے بعد تو وہ شخص ہر طرح کی پریشانی و مصیبت سے بچا رہے گا۔ اپنے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اور اس دعا کی برکت سے خدا تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اور اس قدر رزق ملے گا جس کی اسے توقع بھی نہ ہوگی۔ نیز اس دعا کا ہمیشہ پڑھنا قرض کی ادائیگی کے لئے نہایت مفید ہے اگر قرض پہاڑ کے برابر بھی ہو تو وہ بھی اس دعا کی برکت سے ادا ہو جائے گا۔ مجرب ہے۔

وہ دعا یہ ہے:

یَا اَللّٰہُ یَا وَاحِدُ یَا مَوْجُوْدُ یَاجَوَادُ یَا بَاسِطُ یَا کَرِیْمُ
یَا وَھَّابُ یَا ذَالطَّوْلِ یَا غَنِیُّ یَامُغْنِیْ یَافَتَّاحُ یَارَزَّاقُ
یَا عَلِیْمُ یَاحَکِیْمُ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ یَارَحْمٰنُ یَارَحِیْمُ یَا
بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالاَرْضِ یَا ذَالْجَلَالِ وَالاِکْرَامِ یَا

حَنَّانُ يَامَنَّانُ اَنفِحْنِیْ مِنکَ بِنَفحَةِ خَيرٍ تُغْنِيْنِیْ بِهَا
عَمَّنْ سِوَاکَ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآئَکُمُ الْفَتْحُ
اِنَّافَتَحْنَا لَکَ فَتحاً مُّبِيناً نَصرٌ مِّنَ اللّٰہِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ
اَللّٰهُمَّ يَا غَنِیُّ يَاحَمِيْدُ يَامُبْدِئُ يَامُعِيْدُ يَاوَدُوْدُ
يَاذَالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ يَافَعَّالُ لِّمَا يُرِيْدُ اَکْفِنِیْ
بِحَلَالِکَ عَنْ حَرَامِکَ وَاَغْنِنِیْ بِفَضْلِکَ عَمَّنْ
سِوَاکَ وَاحْفِظْنِیْ بِمَا حَفِظْتَ بِهٖ الذِّکْرَ وَانْصُرْنِیْ
بِمَا نَصَرْتَ بِهٖ الرُّسُلَ اِنَّکَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِيْرٌ ○

۵- ابتدائی مہینہ کے جمعہ سے چالیس جمعہ تک بعد مغرب ان آیتوں کو گیارہ مرتبہ پڑھے۔ اور آیت وَلَقَدْ مَکَّنَّاکُمْ فِی الْاَرْضِ وَجَعَلْنَا لَکُمْ فِیْهَا مَعَایِشَ قَلِیْلاً مَّاتَشْکُرُوْنَ - ہر جمعہ کو کاغذ پر لکھ کر کنوئیں میں ڈالتا جائے۔ انشاء اللہ اس عمل کے نتیجہ میں غنی ہو جائے گا۔

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْکُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاساً يَّغْشٰی
طَآئِفَةً مِّنْکُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ
بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ
الْاَمْرِ مِنْ شَیْءٍ ط قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ کُلَّهٗ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِیْ
اَنْفُسِهِمْ مَالَا يُبْدُوْنَ لَکَ ط يَقُوْلُوْنَ لَوْکَانَ لَنَا مِنَ
الْاَمْرِ شَیْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا قُلْ لَّوْ کُنْتُمْ فِیْ بُيُوْتِکُمْ
لَبَرَزَ الَّذِيْنَ کُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰی مَضَاجِعِهِمْ

وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ
قُلُوْبِكُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ o

٦- جو شخص ان آیتوں کو بکثرت فرض نمازوں اور نوافل کے بعد پڑھے گا اس کے رزق میں وسعت اور اس کے مال میں برکت ہوگی اور تنگدستی دور ہوگی۔

قُلِ اللّٰهُمَّ مٰلِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَآءُ
وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ وَتُذِلُّ
مَنْ تَشَآءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ط اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ o تُوْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُوْلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ
وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ o

٧- سورۂ مزمل کا چالیس روز تک اس ترکیب کے ساتھ وقت مقررہ پر پڑھنا کشائش رزق کے لئے نہایت مفید ہے جگہ بھی متعین ہو تو بہتر ہے۔ پہلے گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھے۔ پھر گیارہ سو گیارہ مرتبہ ”یا مغنی“ اس کے بعد گیارہ مرتبہ سورۂ مزمل پڑھ کر کشائش رزق کے لئے دعا کرے پھر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر ختم کردے۔ اگر اس عمل کو اپنا معمول بنا لیا جائے تو غیب سے طرح طرح کی امداد ہوگی انشاء اللہ۔

٨- چاندی کی انگوٹھی پر یہ آیت کندہ کرا کے پہننا بہت مفید ہے۔ ایسی جگہ سے رزق ملے کہ وہم وگمان بھی نہ ہو۔

ثُمَّ بَعَثْنَا كُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَاَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ
وَالسَّلْوٰى كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَارَزَقْنٰكُمْ ○

۹۔ جب گھر میں داخل ہو تو قُلْ ھُوَ اللہ احد پوری سورت پڑھ لیا کرے۔ انشاء اللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی۔

۱۰۔ سورۂ الم نشرح اور سورۂ کٰفرون کی کثرت خیر و برکت اور کثرت رزق کے لئے نہایت مفید ہے۔

۱۱۔ رمضان شریف کا چاند دیکھنے یا چاند ہونے کی خبر ملنے پر تین مرتبہ سورہ فتح پڑھ لینے سے پورا سال رزق ملتا رہے گا۔

۱۲۔ ہر روز گیارہ سو گیارہ مرتبہ ''یَا مُغْنِی'' اور چالیس مرتبہ سورۂ مزمل اگر چالیس مرتبہ نہ پڑھ سکے تو کم از کم گیارہ مرتبہ پڑھنے سے رزق کثیر ملے مجرب ہے۔

۱۳۔ نماز چاشت کے بعد روزانہ سو مرتبہ ''یَا بَاسِطُ'' پڑھنے سے رزق میں فراخی ہوگی۔

۱۴۔ نصف رات کے بعد باوضو دو رکعت نماز کشائش رزق کی نیت سے پڑھے پہلی رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد پندرہ مرتبہ سورۂ اخلاص اور دوسری رکعت میں بھی سورۂ فاتحہ کے بعد سورۂ اخلاص پندرہ مرتبہ پڑھے۔ پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے ایک ہزار مرتبہ بِسْمِ اللہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور ایک ہزار مرتبہ ''یَا خَفِیُّ الْاَلْطَافِ اَدْرِکْنِیْ بِلُطْفِ خَفِیِّ'' پھر ایک

ہزار مرتبہ یَا بَدُوْحُ پڑھ کر دو رکعت پھر نماز پڑھے اور اس کا ثواب سید علی الہمدانی قدس سرہ کی روح کو پہونچائے یہ کثرت رزق کے لئے مفید ہے۔

۱۵- روز ایک ہزار مرتبہ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ اور ایک ہزار مرتبہ ''یَا وَهَّابُ'' کا پڑھنا کشائش رزق کے لئے اکسیر ہے۔

۱۶- یکشنبہ کی پہلی ساعت میں چاندی کی انگوٹھی کے نگینہ پر اس نقش کو کندہ کرا کر پہننا بکثرت رزق کا دروازہ کھولتا ہے۔

۵۱	۴۶	۵۳
۵۲	۵۰	۴۸
۴۷	۵۴	۴۹

۱۷- ہر نماز کے بعد یہ آیت کثیر رزق کے لئے مفید تر ہے

لَقَدْ جَآئَکُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَاعَنِتُّمْ
حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَءُوْفُ الرَّحِیْمُ ط فَاِنْ
تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ
وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمُ ط

۱۸- جو آیۃ الکرسی مع بسم اللہ خالدون تک اور پوری سورۂ فلق ، مع بسم اللہ اور پوری سورۂ والناس اور قُلْ لَّنْ یُّصِیْبَنَا اِلَّا مَا کَتَبَ اللّٰهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ج وَعَلَی اللّٰهِ فَلْیَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۔ پڑھنے کا معمول بنائے گا اس کے رزق میں اضافہ یقینی ہے۔

۱۹- بعد نماز فجر اول و آخر چودہ چودہ مرتبہ درود شریف اور پھر چودہ سو بار ''یا وھابُ'' اس عمل کا پڑھنے والا کبھی رزق سے محروم نہیں رہے گا بلکہ اہل اللہ نے لکھا ہے کہ اس کی نسلیں بھی کثرتِ رزق سے شادکام رہیں گی۔

۱۱- دعا کی قبولیت

۱- حسن بصریؒ نے فرمایا جو اس آیت کو پڑھ کر دعا کرے گا انشاء اللہ اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًاo يُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًاo وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّ يَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًاo

۲- جمعہ کے دن بعد نماز عصر پوری آیۃ الکرسی ستر ۷۰ مرتبہ پڑھنے کے بعد جس مقصد کے لئے بھی دعا کی جائے گی وہ قبول ہوگی۔

۳- اسم باری تعالیٰ ''کبیر متعال'' کو ان دونوں ناموں کے اعداد کے مطابق یعنی ۷۷۳ مرتبہ پڑھ کر جو بھی دعا کی جائے وہ قبول ہوگی۔

۴- وَاِذَا جَآءَتْهُمْ اٰيَةٌ قَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ حَتّٰى نُؤْتٰى مِثْلَ مَآ اُوْتِىَ رُسُلُ اللّٰهِ ج اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ۔

اس آیت میں لفظ ''اللہ'' متصلاً دو جگہ آ رہا ہے۔ ان دونوں اللہ کے درمیان جس چیز کے لئے بھی دعا کی جائے گی انشاء اللہ ضرور قبول ہوگی۔

۵- جمعرات کے روز بعد نماز چاشت پانچ سو مرتبہ ''السمیع'' پڑھ

کر دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

٦- سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ مجھ سے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کرنے سے پہلے اسے پڑھ لیا کرو۔

يَا اَوَّلَ الْاَوَّلِيْنَ وَيَا اٰخِرَ الْاٰخِرِيْنَ وَيَاذَا الْقُوَّةِ
الْمَتِيْنِ وَيَا رَاحِمَ الْمَسَاكِيْنِ وَيَااَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ○

٧- قبولیت دعا کے لئے اس کا پڑھنا بہت مفید اور نہایت پُر اثر ہے۔

يَاسَابِغَ النِّعَمِ وَيَادَافِعَ النِّقَمِ وَيَافَارِجَ الْغُمَمِ
يَا كَاشِفَ الظُّلَمِ وَيَااَعْدَلُ مَنْ حَكَمَ وَيَا حَسِيْبَ
مَنْ ظَلَمَ وَيَا وَلِيَّ مَنْ ظُلِمَ وَيَا اَوَّلُ بِلَا بِدَايَةٍ
وَيَا آخِرُ بِلَا نِهَايَةٍ وَيَا مَنْ لَهٗ اسْمٌ بِلَا كُنْيَةٍ اِجْعَلْ لِيْ
مِنْ اَمْرِيْ خَرجاً وَمَخْرَجاً○

٨- حدیث میں ہے کہ اگر لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ○ تین بار پڑھ کر دعا مانگی جائے تو انشاء اللہ قبول ہوگی۔

٩- اسے تین مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوگی۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ بِاَنِّيْ اَشْهَدُ اَنَّكَ اَنْتَ اللّٰهُ لَا
اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ الَّذِيْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ
وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ○

١٠- يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ○ ان اسماء حسنیٰ کا بار بار تکرار دورانِ دعا قبولیتِ دعا کے لئے سریع التاثیر ہے۔

۱۱- حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سے پہلے اس دعا کے پڑھنے کا حکم دیا۔

اَللّٰهُمَّ اِنَّکَ خَلَّاقٌ عَلِیْمٌ، اَللّٰهُمَّ اِنَّکَ غَفُوْرٌ
حَلِیْمٌ، اَللّٰهُمَّ اِنَّکَ تَوَّابٌ رَحِیْمٌ، اَللّٰهُمَّ اِ.اَّ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اَللّٰهُمَّ اِنَّکَ الْبَرُّ الْجَوَّادُ الْکَرِیْمِ
اغْفِرْلِیْ وَارْحَمْنِیْ وَاجْبُرْنِیْ وَوَفِّقْنِیْ وَارْزُقْنِیْ
وَاهْدِنِیْ وَنَجِّنِیْ وَعَافِنِیْ واسْتُرْنِیْ وَلَاتُضِلَّنِیْ
وَادْخِلْنِیْ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ○

۱۲- حاجت کا پورا ہونا

جو شخص بعد نماز عشاء پاک وصاف ہو کر ایک ہی نشست میں اسم باری تعالیٰ ''یالطیف'' سولہ ہزار چھ سو اکتالیس مرتبہ پڑھے اور ہر ایک سو انتیس پر ایک مرتبہ **لَاتُدْرِکُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِکُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِیْفُ الْخَبِیْرُ**۔

پڑھ کر جس ضرورت کے لئے دعا کرے گا۔ انشاء اللہ وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔

اس کی آسان ترکیب یہ ہے کہ ایک سو انتیس دانہ کی ایک تسبیح بنالے۔ ایک تسبیح **یَالَطِیْفُ** کی مکمل کر لینے کے بعد ایک مرتبہ **لَاتُدْرِکُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِکُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ اللَّطِیْفُ الْخَبِیْرُ** پڑھے۔ اس

طرح ایک سو انتیس ہی تسبیح پڑھنے سے یہ تعداد پوری ہو جائے گی۔ کیوں کہ ایک سو انتیس کو ایک سو انتیس سے ضرب دیں تو سولہ ہزار چھ سو اکتالیس کا عدد بنتا ہے۔

۲- امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے بعض عابدوں کو اس نماز کی تعلیم دی اور فرمایا کہ اس نماز کے بعد جو کچھ مانگو گے ملے گا۔ ترکیب یہ ہے کہ۔

دو رکعت نماز پڑھی جائے پہلی رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ۔ اور دوسری رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد دس مرتبہ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پڑھے۔ نماز سے فارغ ہو کر دس مرتبہ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اور دس مرتبہ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ پڑھ کر جس ضرورت کے لئے بھی دعا کی جائے قبول ہوگی۔

۳- سورۂ یٰسین جس حاجت کے لئے پڑھی جائے وہ ضرور پوری ہوگی۔

۴- سورۂ انعام پڑھ کر جو دعا کرے وہ ضرور پوری ہوگی۔

۵- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بارہ ہزار مرتبہ اس طرح پڑھے کہ جب ایک ہزار مکمل ہو جائے تو دو رکعت نماز پڑھے اور اپنی حاجت کے لئے دعا کرے۔ اسی طرح ہر ہزار پر دو رکعت نماز پڑھ کر اپنی ضرورت کے لئے دعا مانگیں۔ انشاء اللہ تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔

۶- ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس

نماز کی تعلیم دی اور فرمایا کہ اس نماز کے بعد جو بھی دعا کرو گے اور جس مقصد کے لئے کرو گے انشاء اللہ وہ حاجتیں پوری ہوں گی۔ ترکیب یہ ہے کہ بارہ رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد آیۃ الکرسی اور قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ گیارہ گیارہ بار پڑھے۔ نماز پوری کر لینے کے بعد سجدہ میں جا کر یہ دعا پڑھے۔

سُبْحَانَ الَّذِیْ لَیْسَ الْعِزُّ اِلَّا بِهٖ سُبْحَانَ الَّذِیْ
تَعْطُفُ بِالْمَجْدِ وَتَکْرُمُ بِهٖ سُبْحَانَ الَّذِیْ اَحْصٰی
کُلَّ شَیْءٍ بِعِلْمِهٖ سُبْحَانَ الَّذِیْ لَایَنْبَغِیْ التَّسْبِیْحُ
اِلَّا لَهٗ سُبْحَانَ ذِی الْمَنِّ وَالْفَضْلِ سُبْحَانَ ذِی
الْعِزِّ وَالْکَرَمِ اَسْأَلُکَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِکَ
وَمُنْتَهَی الرَّحْمَةِ مِنْ کِتَابِکَ وَاِسْمِکَ الْاَعْظَمَ
وَجَدِّکَ الْاَعْلٰی وَکَلِمَاتِکَ التَّامَّةِ الَّتِیْ
لَایُجَاوِرُهُنَّ بِرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ اَنْ تُصَلِّیْ عَلٰی
مُحَمَّدِنِ النَّبِیِّ صلی اللّٰه علیه وسلَّمَ.

اس کے بعد اپنے جس مقصد کے لئے چاہے دعا کرے انشاء اللہ وہ تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔

۷۔ جو شخص دو رکعت نماز اس ترکیب سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورۂ الم تنزیل اور دوسری رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورۂ ملک۔ پھر نماز پوری کر کے ''یَادَائِمُ یَا حَیُّ یَا فَرْدُ یَاوِتْرُ یَاقَدِیْمُ''

یَااَحَدُ یَاصَمَدُ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ ط” پڑھے۔ پھر اپنی ضرورت خدا تعالیٰ سے بیان کرے۔ انشاء اللہ اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی۔

۸- دو رکعت نماز نفل ادا کر کے ایک مرتبہ سُبْحَانَکَ اللّٰھُمَّ وَبِحَمْدِکَ وَتَبَارَکَ اسْمُکَ وَتَعَالٰی جَدُّکَ وَلَا اِلٰہَ غَیْرُکَ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر یہ دعا مانگیں۔

لَا اِلٰـہَ اِلَّا اللّٰہُ الْعَلِیْمُ الْکَرِیْمُ ، سُبْحٰنَکَ اللّٰہِ وَرَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اَسْأَلُکَ
مُوْجِبَاتِ رَحْمَتِکَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِکَ وَالْعِصْمَۃَ
مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَالْغَنِیْمَۃَ مِنْ کُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَۃَ مِنْ
کُلِّ اِثْمٍ لَا تَدَعْ لِیْ ذَنْبًا اِلَّا غَفَرْتَہٗ وَلَا ھَمًّا اِلَّا
فَرَّجْتَہٗ وَلَا حَاجَۃً ھِیَ لَکَ رِضًا اِلَّا قَضَیْتَھَا یَا اَرْحَمَ
الرَّاحِمِیْنَ ط.

۹- جمعہ کی شب میں غسل کر کے پاک کپڑا پہن کر دو رکعت نفل نماز ادا کرے پہلی رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد قُلْ یٰاَیُّھَا الْکَافِرُوْنَ سات مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد سات مرتبہ پڑھے۔ رکوع اور سجود میں تسبیحات سات سات مرتبہ پڑھے۔ پھر سلام کے بعد دس مرتبہ سجدہ میں سر رکھ کر یہ دعا پڑھے۔

سُبْحَانَ اللّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ وَلَا اِلٰـہَ اِلَّا اللّٰہُ وَاللّٰہُ

اَکْبَرُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ اَسْتَغْفِرُاللّٰہَ وَاَتُوْبُ اِلَیْہِ۔

اس کے بعد سجدہ سے سر اٹھا کر دس مرتبہ یہ درود شریف پڑھے۔

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّبَارِکْ وَسَلِّمْ وَعَلٰی جَمِیْعِ الْاَنْبِیَآءِ وَالْمُرْسَلِیْنَ وَعِبَادِکَ الصَّالِحِیْنَ بِرَحْمَتِکَ یَآاَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

پھر دس بار یَا غِیَاثَ الْمُسْتَغِیْثِیْنَ اَغِثْنِیْ اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ.

اس کے بعد دس مرتبہ

اَللّٰھُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَۃً وَّفِی الْاٰخِرَۃِ حَسَنَۃً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاٰلِہٖ اَجْمَعِیْنَ. پڑھ کر اپنے مقصد کے لئے دعا کرے انشاء اللہ پورا ہوگا۔ مجرب ہے۔

۱۰۔ بارہ رکعت نماز نفل کی نیت سے پڑھے اور ہر دو رکعت پر التحیات پڑھ کر بغیر سلام پھیرے ہوئے کھڑا ہو جائے۔ اخیر میں جب بیٹھے تو التحیات کے بعد سُبْحَانَکَ وَبِحَمْدِکَ وَتَبَارَکَ اسْمُکَ وَتَعَالٰی جَدُّکَ وَلَا اِلٰہَ غَیْرُکَ پڑھ کر درود شریف پڑھے پھر سلام سے پہلے سجدہ میں جا کر سات مرتبہ سورۂ فاتحہ، سات مرتبہ آیۃ الکرسی اور

سات مرتبہ قل ھو اللہ احد، اور دس مرتبہ لَا اِلٰـہ اِلَّا اللّٰہُ وَحْدَہٗ لَاشَرِیْکَ لَہٗ لَہُ الْمُلْکُ وَلَہُ الْحَمْدُ وَھُوَ عَلٰی کُلِّ شَیٍٔ قَدِیْرٍ۔

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ بِمَعَاقِدِ الْعِزِّ مِنْ عَرْشِکَ
وَمُنْتَھَی الرَّحْمَۃِ مِنْ کِتَابِکَ وَبِاسْمِکَ الْاَعْظَمِ
وَجَدِّکَ الْاَعْلٰی وَکَلِمَتِکَ التَّامَّۃِ.

پھر سلام پھیر کر اپنی حاجت کے لئے دعا کرے۔ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مقصد کے لئے بھی وہ دعا کرے گا۔ انشاء اللہ ضرور قبول ہوگی۔

۱۱- سورۂ یٰسین مع بسم اللہ کے اس ترکیب سے پڑھے کہ جب پہلے مبین پر پہونچے تو داہنے ہاتھ کی چھنگلی بند کرلے۔ پھر شروع سے سورۂ یٰسین پڑھے اور دوسرے مبین پر پہونچے تو اس کے برابر والی انگلی بند کر لے۔ پھر سورۂ یٰسین شروع سے پڑھے اور جب تیسرے مبین پر پہونچے تو درمیان کی انگلی بند کرلے۔ پھر شروع سے پڑھے اور جب چوتھے مبین پر پہونچے تو شہادت کی انگلی بند کرلے۔ پھر شروع سے پڑھے اور جب پانچویں مبین پر پہنچے تو انگوٹھے کو زور سے بند کرلے جیسے کہ گھونسہ بند کرتے ہیں۔ پھر سورۂ یٰسین ابتداء سے پڑھنا شروع کرے اور جب چھٹے مبین پر پہونچے تو بائیں ہاتھ کی چھنگلی بند کرلے۔ پھر شروع سے پڑھے جب ساتویں مبین پر پہونچے تو اس سے برابر والی انگلی بند کرلے۔

جب ساتویں مبین ختم کرلے تو پھر سورۂ یٰسین پڑھنا شروع

کرے اور پہلے مبین پر بائیں ہاتھ کی چھنگلی کے برابر والی انگلی کھولے۔ دوسرے مبین پر بائیں ہاتھ کی چھنگلی کھولے۔ اور تیسرے مبین پر داہنے ہاتھ کا انگوٹھا۔ اور چوتھے مبین پر شہادت کی انگلی کھولے۔ اور پانچویں مبین پر درمیان کی انگلی کھولے۔ اور چھٹے مبین پر اس سے برابر کی انگلی کھولے۔ اور ساتویں مبین پر چھنگلی کھول کر پوری سورۂ یٰسین پھر پڑھے۔

اور جب بھی سورۂ یٰسین پڑھنا شروع کرے تو اس طرح پڑھے یٰسین صلی اللہ علیہ و سلم والقرآن الحکیم الخ پھر اپنے مقصد کے لئے دعا کرے انشاء اللہ اس عمل کی برکت سے تمام مقاصد پورے ہوجائیں گے۔

۱۲- جو شخص سورۂ واقعہ ایک ہی نشست میں چالیس مرتبہ پڑھے گا اس کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی خصوصاً وہ ضرورت جو رزق سے متعلق ہو۔

۱۳- ادائیگی قرض

اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر سو مرتبہ یہ دعا پڑھنا ادائیگی قرض کے لئے نہایت مفید ہے۔

اَللّٰھُمَّ اِنِّیۡ اَعُوۡذُبِکَ مِنَ الۡھَمِّ وَالۡحُزۡنِ
وَاَعُوۡذُبِکَ مِنَ الۡعِجۡزِ وَالۡکَسۡلِ و اعوذبک من
البخلِ والجبۡنِ مِنۡ غَلَبَۃِ الدَّیۡنِ وَقَھۡرِ الرِّجَالِ
اَللّٰھُمَّ اکۡفِنِیۡ بِحَلَالِکَ عَنۡ حَرَامِکَ وَاَغۡنِنِیۡ

بِفَضْلِکَ عَمَّنْ سِوَاکَ

اس دعا میں اگر غم وحزن سے نجات چاہتا ہے تو اسے تین بار پڑھے عجز وکسل نے تو اسے بھی تین بار غرضیکہ جس مقصد کے لئے پڑھ رہا ہے تو اسے تین بار اور باقی کلمات کو ایک بار۔

۲۔ جو شخص صبح وشام اس آیت کو بکثرت پڑھے گا انشاء اللہ اس کا قرض ادا ہو جائے گا۔

قُلِ اللّٰھُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِ الْمُلْکَ مِمَّنْ
تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ
وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ببیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلٰی کُلِّ
شَیْءٍ قَدِیْرٌ۔

۳۔ سورۂ تحریم کی تلاوت ادائے گی قرض کے لئے مفید ہے۔

۴۔ دو رکعت نماز وتر سے پہلے پڑھے اور ہر دو رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد پانچ بار۔

قُلِ اللّٰھُمَّ مَالِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِ الْمُلْکَ مَنْ
تَشَآءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَآءُ
وَتُذِلُّ مَنْ تَشَآءُ ببیَدِکَ الْخَیْرِ اِنَّکَ عَلٰی کُلِّ
شَیْءٍ قَدِیْرٌ ط تُوْلِجُ الَّیْلَ فِی النَّھَارِ وَتُوْلِجُ النَّھَارَ فِی
الَّیْلِ وَتُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَیِّتَ
مِنَ الْحَیِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ ط

پڑھے تو انشاء اللہ اس کے تمام قرض ادا ہو جائیں گے۔ نہایت مجرب ہے۔

۵- جو شخص اس دعا کو پانچوں نمازوں کے بعد خصوصاً نماز جمعہ کے بعد پڑھنے کا معمول بنالے گا تو اس دعاء کی برکت سے خدا تعالیٰ اس کے تمام قرض ادا کرادیں گے۔ اگرچہ قرض کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ دعا یہ ہے۔

یَا اللّٰہُ یَا اَحَدُ یَا وَاحِدُ یَا مَوْجُوْدُ یَا جَوَّادُ یَا بَاسِطُ
یَا کَرِیْمُ یَا وَھَّابُ یَا ذَالطَّوْلِ یَا غَنِیُّ یَا مُغْنِیْ یَا فَتَّاحُ
یَا رَزَّاقُ یَا عَلِیْمُ یَا حَکِیْمُ یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ یَا رَحْمٰنُ
یَا رَحِیْمُ یَا بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یَا ذَالْجَلَالِ
وَالْاِکْرَامِ یَا حَنَّانُ یَا مَنَّانُ اُنْفُحْنِیْ مِنْکَ بِنَفْحَةِ
خَیْرٍ، تُغْنِنِیْ بِھَا عَمَّنْ سِوَاکَ اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا
فَقَدْ جَآءَ کُمُ الْفَتْحُ اِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُّبِیْنًا نَصْرٌ
مِّنَ اللّٰہِ وَفَتْحٌ قَرِیْبٌ اَللّٰھُمَّ یَا غَنِیُّ یَا حَمِیْدُ یَا مُبْدِئُ
یَا مُعِیْدُ یَا وَدُوْدُ یَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِیْدُ یَا فَعَّالُ
لِّمَا یُرِیْدُ اِکْفِنِیْ بِذحَلَالِکَ عَنْ حَرَامِکَ وَاَغْنِنِیْ
بِفَضْلِکَ عَمَّنْ سِوَاکَ وَاحْفِظْنِیْ بِمَا حَفِظْتَ بِہٖ
الذِّکْرَ وَانْصُرْنِیْ بِمَا نَصَرْتَ بِہٖ الرُّسُلَ اَنَّکَ عَلٰی
کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ط

جس مقصد کے لئے پڑھ رہا ہو اسے تین بار پڑھے بلا سے حفاظت کے لئے تو وَاحْفِظْنِیْ بِمَاحَفِظْتَ بِهٖ الذِّکْرَ کو تین بار پڑھے۔

۱۴- غم کا دور ہونا

رمضان شریف کی ستائیسویں کو یہ آیت کسی کاغذ پر لکھ کر انگوٹھی کے نگینہ کے نیچے رکھنے سے پورے سال تمام غموں سے نجات پائے گا۔

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّابُشْرٰی لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ
وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ حَكِیْم.

۲- جو شخص کسی غم میں مبتلا ہو وہ ایک ہزار مرتبہ "الباقی" کا ورد کرے انشاء اللہ غم سے چھٹکارا ملے گا۔

۳- ان اشعار کو بار بار پڑھنے سے ہر طرح کے غم سے نجات ملے گی۔

وَكَمْ لِلّٰهِ مِنْ لُطْفٍ خَفِیٍّ ☆ یَدُقُّ خِفَاءُهٗ عَنْ فَهْمِ الزَّكِیّ
وَكَمْ یُسْرٍ اَتٰی مِنْ بَعْدَ عُسْرٍ ☆ وَفَرَّجَ كُرْبَةَ الْقَلْبِ الشَّجِیّ
وَكَمْ اَمْرٍ تُسَاءُ بِهٖ صَبَاحاً ☆ فَتَاتِیُكَ الْمَسَرَّةُ بِالْعَشِیّ
اِذَا ضَاقَتْ بِكَ الْاَحْوَالُ یَوْمًا ☆ فَثِقْ بِالْوَاحِدِ الْفَرْدِ الْعَلِیّ
تَوَسَّلْ بِالنَّبِیِّ فَكُلُّ عَبْدٍ ☆ یُغَاثُ اِذَا تَوَسَّلَ بِالنَّبِیّ

۴- سورۂ نوح کی تلاوت دفع غم کے لئے مفید ہے۔

۵- دفع غم کے واسطے اس آیت کا بار بار پڑھنا مفید ہے۔

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِی الَّیْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

○اِنَّ اللّٰہَ یُمْسِکُ السَّمٰوٰاتِ وَالْاَرْضِ اَنْ تَزُوْلَا○

۱۵- پیداوار میں کثرت

ان آیتوں کو زیتون کے چار پتوں پر لکھ کر مکان یا باغ کے چاروں کونوں میں گاڑ دے تو انشاء اللہ پیداوار میں کثرت ہوگی آیت یہ ہے۔

الٓمّٓرٰ تِلْکَ اٰیَاتُ الْکِتَابِ ط وَالَّذِیْ اُنْزِلَ اِلَیْکَ
مِنْ رَّبِّکَ الْحَقُّ وَلٰکِنَّ اَکْثَرَالنَّاسِ لَا یُؤْمِنُوْنَ اللّٰہُ
الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَھَا ثُمَّ اسْتَوٰی
عَلَی الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کُلٌّ یَّجْرِیْ
لِاَجَلٍ مُّسَمًّی ط یُدَبِّرُ الْاَمْرَ یُفَصِّلُ الْاٰیَاتِ لَعَلَّکُمْ
بِلِقَآءِ رَبِّکُمْ تُوْقِنُوْنَ ○وَھُوَ الَّذِیْ مَدَّ الْاَرْضَ
وَجَعَلَ فِیْھَا رَوَاسِیَ وَاَنْھَاراً ط وَمِنْ کُلِّ الثَّمَرٰتِ
جَعَلَ فِیْھَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِی اللَّیْلَ النَّھَارَ اِنَّ فِیْ
ذَالِکَ لَاٰیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَکَّرُوْنَ○

۲- کسی کاغذ پر سورۂ فاتحہ لکھ کر اسے دھو کر وہ پانی کھیت میں یا باغ میں چھڑک دے لیکن جب ''مٰلِکِ یَوْمِ الدِّیْنِ'' پر پہنچے تو اسے سات مرتبہ لکھے انشاء اللہ پیداوار بہت اچھی ہوگی۔

۳- جمعرات کے دن روزہ رکھے اور بعد مغرب کسی سے بات کئے بغیر یہ آیت ایک کاغذ پر لکھ کر اسے تعویذ بنا کر باغ کے درمیان کسی درخت سے

باندھ دے۔ یا کھیت کے درمیان گاڑ دے۔ انشاء اللہ فصل بہت اچھی ہوگی۔

وَبَشِّرِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَهُمْ
جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ كُلَّما رُزِقُوْا مِنْهَا
مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَاُتُوْا
بِهٖ مُتَشَابِهًا وَّلَهُمْ فِيْهَا اَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيْهَا
خٰلِدُوْنَ۝

۴- یہ آیت لکھ کر کنوئیں میں ڈال دے اور اس کنوئیں سے کھیت یا باغ میں پانی ڈالے۔ انشاء اللہ فصل اچھی ہوگی۔

هُوَ الَّذِيْ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجْنَا بِهٖ نَبَاتَ
كُلِّ شَيْءٍ فَاَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا
مُتَرَاكِبًا ط وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ
وَّجَنّٰتٍ مِّنْ اَعْنَابٍ وَّالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا
وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ط اُنْظُرُوْا اِلٰى ثَمَرِهٖ اِذَا اَثْمَرَ وَيَنْعِهٖ ط
اِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ۝

۵- اس آیت کو کسی پاک برتن پر زعفران سے لکھ کر دھوئے اور اس پانی سے بیج (تخم) کو دھو کر بوئے یا اس پانی کا کھیت میں چھڑکاؤ کرے تو فصل خراب نہ ہوگی۔

اِنَّ اللّٰهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوٰى ط يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ
الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ ط ذَالِكُمُ اللّٰهُ

فَانّٰی تُؤْفَکُوْنَ○

۶- چہارشنبہ کو کھیت بوئے اور بوتے وقت سو مرتبہ سُبْحَانَ اللّٰہِ الْبَاعِث الوارث پڑھے انشاء اللہ کھیت میں خوب فائدہ ہوگا۔

۱۶- ٹڈی دل سے حفاظت

اگر اس دعا کو لکھ کر کسی کھوکھلی لکڑی میں ڈال کر کھیت یا باغ میں گاڑ دیا جائے تو ٹڈی دل اس کھیت کو قطعاً نقصان نہیں پہونچا سکے گی۔ اور فصل بالکل محفوظ رہے گی۔ دعا یہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍوَّسَلَّمَ . اَللّٰھُمَّ
اَھْلِکْ صِغَارَھُمْ وَاقْتُلْ کِبَارَھُمْ وَافْسِدْ بَیْضَھُمْ
وَخُذْ بِاَفْوَاھِھِمْ عَنْ مَعَایِشِنَا وَ اَرْزَاقِنَا اِنَّکَ سَمِیْعُ
الدُّعَاءِ اِنِّیْ تَوَکَّلْتُ عَلٰی رَبِّیْ وَرَبِّکُمْ مَا مِنْ دَآبَّۃٍ
اِلَّا ھُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِیَتِھَا اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ
اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ وَاسْتَجِبْ
مِنَّا یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ○

۲- اگر کہیں ٹڈی دل آجائے تو ان میں سے چار ٹڈی کو پکڑ کر چاروں کے پروں پر ایک ایک آیت لکھ کر یہ کہتے ہوئے کہ فلاں شہر کی جانب چلی جاؤ ان کو چھوڑ دے۔ انشاء اللہ ٹڈی دل اس شہر سے فوراً روانہ ہوجائے گا۔

شیخ یحیٰ بن عبدالقرشیؒ فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا اسے آزمایا اور مجرب پایا۔

ان میں سے ایک کے پر کے اوپر

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ لکھے اور

دوسری کے بازو پر

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَايَشْتَهُوْنَ۔

اور تیسری کے پَر پر۔

ثُمَّ انْصَرَفُوْا صَرَفَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ

اور چوتھے پر

فَلَمَّا قَضٰى وَلَّوْا اِلٰى قَوْمِهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ۝

۱۷- کیڑوں سے حفاظت

اگر مدینہ منورہ کے سات مشہور فقہاء کے نام لکھ کر گیہوں وغیرہ میں رکھ دیا جائے تو جب تک یہ کاغذ اس میں پڑا رہے گا اس غلہ میں کیڑا نہیں لگ سکتا وہ نام یہ ہیں عبیداللہ، عروہ، قاسم، سعید، ابوبکر، سلیمان، خارجہ۔

۲- اگر ''وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ'' پوری سورت پڑھ کر غلہ وغیرہ پر دم کر دیا جائے تو وہ غلہ کیڑے سے محفوظ رہے گا۔

۳- سورۂ مجادلہ اگر کسی کاغذ پر لکھ کر غلہ میں رکھ دیا جائے تو اس غلہ کو کیڑا وغیرہ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

۱۸- مچھروں سے حفاظت

اگر کہیں مچھروں کی کثرت ہو تو چار کاغذ پر یہ عدد لکھ کر مکان یا باغ یا کمرہ کے چاروں کونوں پر چپکا دیں انشاء اللہ سب بھاگ جائیں گے مجرب ہے۔ ''۱۱۱۲۱۲''۔

۲- اگر مچھروں کی کثرت ہو تو سات مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کر کے چار پائی کے چہار جانب چھڑک دے تو انشاء اللہ مچھر پریشان نہیں کریں گے۔

وَمَالَنَا اَنْ لَّا نَتَوَکَّلَ عَلَی اللّٰہِ وَقَدْ ھَدَانَا سُبُلَنَا ط
وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰی مَا اٰذَیْتُمُوْنَ وَعَلَی اللّٰہِ فَلْیَتَوَکَّلِ
الْمُتَوَکِّلُوْنَ ○

اور پانی چھڑکتے وقت یہ پڑھتا رہے۔

اِنْ کُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ اَیَّتُھَا الْبَرَاغِیْثُ فَکُفُّوْا
عَنَّا شَرَّکُمْ وَاَذَاکُمْ.

۳- اگر انجیر کی چار لکڑیاں لے کر ذبح کی ہوئی بکری کے خون میں تر کر کے ان لکڑیوں پر یہ دعا پڑھی جائے اور پھر ان لکڑیوں کو مکان کے چاروں کونوں میں رکھ دیا جائے تو تمام مچھر ان لکڑیوں پر آ کر جمع ہو جائیں گے مگر انہیں مارا نہ جائے۔ دعا یہ ہے:

اَیَّتُھَا الْبَرَاغِیْثُ السُّوْدُ اِنَّکُمْ مِنْ جُمْلَۃِ الْجُنُوْد
اَقْسَمْتُ عَلَیْکُمْ بِالْوَاحِدِ الْمَعْبُوْدِ الَّذِیْ اَھْلَکَ

عَاداً وَّ ثَمُوداً اَنْ تَجْمَعُوْا عَلٰی هٰذِهِ الْعُوْدِ لَا يَبْقٰی
مِنْكُمْ وَالِدٌ وَّلَا مَوْلُوْدٌ ط

۴- ان آیتوں کو تانبے کی طشت پر آبِ ریحان سے لکھ کر اسے دھو کر یہ پانی سارے گھر میں چھڑکا جائے۔ انشاءاللہ سب مچھر ختم ہوجائیں گے۔

فَلَمَّا نَسُوْا مَاذُكِّرُوْا بِهٖ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ اَبْوَابَ كُلِّ شَیْءٍ
حَتّٰی اِذَا فَرِحُوْا بِمَا اُوْتُوْا اَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَاِذَاهُمْ
مُبْلِسُوْنَ ط فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَالْحَمْدُ
لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○

۱۹- چینٹیوں سے حفاظت

اگر کسی برتن میں میٹھی چیز رکھی ہوئی ہو اور اس میں چیونٹی کے گھسنے کا اندیشہ ہو تو اس برتن کے چہار جانب ہاتھ پھیرتے ہوئے اس دعا کا پڑھنا مفید ہے۔ انشاءاللہ چیونٹی اس برتین کے قریب بھی نہ جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے

هٰذَا الْوَكِيْلِ الْقَاضِیْ اَوْ هٰذَا لِرَسُوْلِ الْقَاضِیْ اَوْ
هٰذَا لِغُلَامِ الْقَاضِیْ.

۲- اگر چیونٹیوں کی کثرت ہو تو اس آیت کو لکھ کر ان کے سوراخ میں رکھ دیا جائے تو تمام چیونٹیاں اپنے سوراخ میں واپس چلی جائیں گے۔

يَا اَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ
سُلَيْمَانُ وَجُنُوْدُهٗ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ○

۲۰- برائے حفاظت

جو شخص اس دعا کو طلوعِ آفتاب کیوقت روزانہ سات مرتبہ پڑھ لیا کرے وہ دشمنوں کی ایذاء رسانی، شیطان اور ظالم کے شر اور درندوں سے بلکہ ہر پریشانی سے محفوظ رہے گا۔ وہ دعا ہے کہ:

اَشْرَقَ نُوْرُ اللّٰہِ وَظَهَرَ كَلَامُ اللّٰہِ وَثَبَتَ اَمْرُ اللّٰہِ نَفَذَ
حُكْمُ اللّٰہِ اِسْتَعَنْتُ بِاللّٰہِ وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰہِ مَا شَآءَ
اللّٰہُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہ تَحَصَّنْتُ بِخَفِیِّ
لُطْفِ اللّٰہِ وَ بِلَطِيْفِ صُنْعِ اللّٰہِ وَبِجَمِيْلِ سِتْرِ اللّٰہِ
وَبِعَظِيْمِ ذِكْرِ اللّٰہِ وَبِقُوَّةِ سُلْطَانِهٖ دَخَلْتُ فِیْ كَنَفِ
اللّٰہِ وَاسْتَجَرْتُ بِرَسُوْلِ اللّٰہِ صلى الله عليه وسلمَ
بَرِئْتُ مِنْ حَوْلِیْ وَقُوَّتِیْ وَاسْتَعَنْتُ بِحَوْلِ اللّٰہِ وَقُوَّتِهٖ
اَللّٰهُمَّ اسْتُرْنِیْ فِیْ نَفْسِیْ وَدِيْنِیْ وَاَهْلِیْ وَمَالِیْ
وَوَلَدِیْ بِسِتْرِكَ الَّذِیْ سَتَرْتَ بِهٖ ذَاتَكَ فَلَا عَيْنٌ
تَرَاكَ وَلَا يَدٌ تَصِلُ اِلَيْكَ يَا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ اَحْجِبْنِیْ
عَنِ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ بِقُدْرَتِكَ يَاقَوِیُّ يَامَتِيْنُ
وَصَلَّى اللّٰہُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيّيْنَ وَعَلٰی
آلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِيْنَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا دَائِمًا
اَبَدًا اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥

۲- جو شخص ان آیات کو ہمیشہ پڑھتا رہے گا وہ دشمن، چور اور جن وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔

فَاِذَا اسْتَوَیْتَ اَنْتَ وَمَنْ مَّعَکَ عَلَی الْفُلْکِ فَقُلِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ نَجّٰنَا مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ○ وَقُلْ
رَّبِّ اَنْزِلْنِیْ مُنْزَلًا مُّبٰرَکًا وَّاَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ ○

۳- مہینہ کی چودہ تاریخ کو یہ نقش لکھ کر جس گھر میں رکھا جائے وہ گھر آگ اور چور وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ نقش یہ ہے۔

(ا د ر د ل ر و لا)

۴- ظالم کے پاس جاتے ہوئے معوذتین پڑھ لینے سے اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح سورۂ نصر کسی ہتھیار پر نقش کرا کے ظالم کے مقابلہ میں جائے تو فتح حاصل ہو۔

۵- جب کسی سفر پر روانہ ہو تو چاہئے کہ گھر سے روانہ ہوتے وقت اپنے اہل وعیال سے یہ کہے۔

اَسْتَوْدِعُکُمُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا یُضِیْعُ اَمَانَتَهٗ

اس کی برکت سے خدائے تعالیٰ اس کے اہل وعیال کو ہر طرح کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔

۶- جب گھر سے روانہ ہو تو گھر سے نکلتے وقت آیۃ الکرسی اور لِاِیْلٰفِ پڑھنے سے اس کے واپسی تک گھر پر کوئی آفت نہیں آئے گی۔

۷- جو شخص روزانہ صبح پچیس مرتبہ یہ دعا پڑھ لے گا۔ وہ پورے دن ہر

طرح کی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔

اَسْتَغْفِرُ اللہَ الْعَظِیْمَ الَّذِیْ لَا اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ الَّذِیْ لَا یَمُوْتُ وَاَتُوْبُ اِلَیْہِ.

۸۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں آیتیں خوف و ڈر اور آلام و مصائب کے واسطے نہایت مجرب ہیں۔ جو شخص ان آیتوں کو لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ ہر طرح کی پریشانیوں سے بچا رہے گا۔ اور دشمنوں کی ایذا رسانی اور تمام امراض ظاہری و باطنی سے محفوظ رہے گا۔

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللہِ ...... وَالَّذِیْنَ مَعَہٗ اَشِدَّآءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیْنَھُمْ تَرٰھُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَّبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللہِ وَرِضْوَاناً سِیْمَاھُمْ فِیْ وُجُوْھِھِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ط ذالِکَ مَثَلُھُمْ فِی التَّوْرَاتِ وَمَثَلُھُمْ فِی الْاِنْجِیْلِ کَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَہٗ فَاٰزَرَہٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰی عَلٰی سُوْقِہٖ یُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیْظَ بِھِمُ الْکُفَّارَ ط وَعَدَ اللہُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْھُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْراً عَظِیْماً ○ ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَیْکُمْ مِّنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاساً یَّغْشٰی طَآئِفَةً مِّنْکُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَھَمَّتْھُمْ اَنْفُسُھُمْ یَظُنُّوْنَ بِاللہِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاھِلِیَّةِ یَقُوْلُوْنَ ھَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَیْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ کُلَّہٗ لِلّٰہِ یُخْفُوْنَ فِیْ اَنْفُسِھِمْ وَلَا یُبْدُوْنَ لَکَ

يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّاقُتِلْنَا هٰهُنَا قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

۹- حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسی دعا بتائی ہے جس کے پڑھ لینے کے بعد مجھے نہ شیطان سے ڈر معلوم ہوتا ہے اور نہ حاکم سے اور نہ کسی درندہ وغیرہ سے۔ اس دعاء کا پڑھنے والا ہر شر سے محفوظ رہے گا۔

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ اللّٰهُ اَكْبَرُ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى نَفْسِيْ وَدِيْنِيْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى اَهْلِيْ وَمَالِيْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ اَعْطَانِيْهِ رَبِّيْ بِسْمِ اللّٰهِ خَيْرِ الْاَسْمَآءِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ دَاءٌ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِيْ لَا يَضُرُّ مَعَ اِسْمِهٖ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ بِسْمِ اللّٰهِ اِفْتَتَحْتُ وَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ اللّٰهُ اللّٰهُ رَبِّيْ لَا اُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا اَسْأَلُكَ اَللّٰهُمَّ بِخَيْرِكَ مِنْ خَيْرِكَ الَّذِيْ لَا يُعْطِيْهِ اَحَدٌ غَيْرُكَ عَزَّ جَارُكَ وَجَلَّ ثَنَائُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ اِجْعَلْنِيْ فِيْ عِبَادِكَ وَاحْفَظْنِيْ مِنْ شَرِّ

كُلِّ ذِىْ شَرٍّ خَلَقْتَهٗ وَاحْتَرِزْ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ
الرَّجِيْمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَحْتَرِسُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِىْ
شَرٍّ خَلَقْتَهٗ اِحْتَرِسُ بِكَ مِنْهُمْ وَاُقَدِّمُ بَيْنَ يَدَىَّ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝ اللّٰهُ
الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ
وَمِنْ خَلْفِىْ مِثْلَ ذَالِكَ وَعَنْ يَمِيْنِىْ مِثْلَ ذَالكَ
وَعَنْ يَسَارِىْ مِثْلَ ذَالكَ وَمِنْ فَوْقِىْ مِثْلَ ذَالكَ
وَمِنْ تَحْتِىْ مِثْلَ ذَالكَ .

۱۰- یہ آیتیں جس سامان میں، گھر میں یا دوکان وغیرہ میں لکھ کر لٹکا یا جائے وہ ہر طرح کی بربادی ونقصانی سے محفوظ رہے گا۔

ذَالِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُوْنَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ
الظّٰلِمُوْنَ وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا وَقَضٰى
رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ تَنْزِيْلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْاَرْضَ
وَالسَّمٰوٰتِ الْعُلٰى اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى لَهٗ
مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا
تَحْتَ الثَّرٰى يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ اِلَّا مَنْ اَتَى
اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ائْتِيَا طَوْعًا اَوْ كَرْهًا قَالَتَا اَتَيْنَا
طَآئِعِيْنَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ

مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَّمَا اُرِيْدُ اَنْ يُطْعِمُوْنَ اِنَّ اللّٰهَ
هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ
وَمَا تُوْعَدُوْنَ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ
مَا اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ○

۱۱- اگر سوتے وقت اس آیت کو تین بار پڑھ لیا جائے تو پوری رات چوری اور آگ سے محفوظ رہے گا اور اس کے اہل وعیال اور اس کا مال خدا تعالیٰ کی حفاظت میں رہے۔

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَّلَمْ يَكُنْ لَّهٗ
شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ
وَكَبِّرْهُ تَكْبِيْرًا.

۲۱- مال کا گم ہو جانا

اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ دعا پڑھ کر اپنی گم شدہ چیز کے مل جانے کی دعا کرے انشاء اللہ بہت جلد وہ چیز مل جائے گی۔

يَا جَامِعَ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيْهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ
الْمِيْعَادُ اِجْمَعْ بَيْنِيْ وَبَيْنَ كَذَا فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى
يَجْمَعُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ ذَالِكَ الشَّيْئُ.

ذَالِکَ الشیئُ اور اوپر ''بین کدا'' اپنی گم شدہ چیز کا ذکر اور بھرپور خیال کرتے، اسی طرح اگر کسی انسان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہے

توبینَ کذا "ذلک الشیی" کی جگہ اس شخص کا نام لیوے۔

۲۔ اگر کسی چیز یا مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو تو سورہ قصص لکھ کر اس جگہ لٹکا دے جہاں مال رکھا ہوا ہو۔ انشاء اللہ وہ مال ضائع اور برباد نہیں ہوگا۔

۳۔ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہوگئی ہو تو سورۂ والضحی سات مرتبہ پڑھ کر اس چیز کی واپسی کے لیے دعا کرے۔ جب **وَوَجَدَکَ ضَآلًّا فَھَدٰی** پر پہنچے تو اسے تین مرتبہ پڑھے انشاء اللہ وہ چیز مل جائے گی۔ اگر وہ چیز نہیں ملے گی تو خدا تعالیٰ اس کا نعم البدل عطا فرمائے گا۔

۴۔ اگر کسی کی کوئی چیز چوری ہوگئی ہو تو جس دروازہ سے مال نکلا ہو اس دروازہ پر کھڑا ہو کر سورۂ والطارق پڑھنے سے وہ مال واپس مل جائے گا۔

۵۔ جس شخص کی کوئی چیز گم ہو جائے تو ایک سو انیس مرتبہ یا حفیظ اور ایک سو انیس مرتبہ یہ دعا پڑھ کر اس چیز کے واپسی کی دعا کرے۔ تو انشاء اللہ وہ چیز مل جائے گی۔ مجرب ہے۔ دعا یہ ہے۔

یٰبُنَیَّ اِنَّھَا اِنْ تَکُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فِیْ صَخْرَةٍ اَوْفِی السَّمٰوٰتِ اَوْفِی الْاَرْضِ یَاْتِ بِھَا اللّٰہُ ط.

۶۔ گم شدہ چیز کے مل جانے کے لئے اس دعا کی کثرت کرے

یَاجَامِعُ النَّاسِ لِیَوْمٍ لَّا رَیْبَ فِیْہِ اِجْمَعْ عَلَیَّ ضَآلَّتِیْ.

انشاء اللہ اس دعا کی برکت سے وہ چیز مل جائے گی

۷۔ ان آیتوں کو روٹی یا کسی کھانے کی چیز پر لکھ کر جس پر چوری کا شبہ ہو

اسے کھلائے اگر وہ واقعی چور ہوگا تو وہ نہیں کھا سکے گا۔ آیات یہ ہیں:

وَاِذْقَتَلْتُمْ نَفْساً فَادّٰرَئْتُمْ فِيْهَا ط وَ اللّٰهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ
تَكْتُمُوْنَ o يَتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيْغُهٗ وَيَاْتِيْهِ الْمَوْتُ
وِمِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَّمَاهُوَبِمَيِّتٍ ط وَمِنْ وَّرَآئِهٖ عَذَابٌ
غَلِيْظٌ o اَلَّايَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ
وَمَاتُعْلِنُوْنَ o اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ
الْعَظِيْمِ o وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا
اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّراً وَّنَذِيْراً o وصلى الله تعالىٰ
على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم۔

٨- اگر کسی کی کوئی چیز کھو گئی ہو تو اپنی انگشت شہادت کو اپنے سر کے چہار جانب گھماتے ہوئے سات مرتبہ سورۂ والضحیٰ پڑھے پھر ایک مرتبہ

اَصْبَحْتُ فِىْ اَمَانِ اللّٰهِ وَاَمْسَيْتُ فِىْ جَوَارِ اللّٰهِ
اَمْسَيْتُ فِىْ اَمَانِ اللّٰهِ اَصْبَحْتُ فِى جَوَارِ اللّٰهِ۔

پڑھ کر تین مرتبہ تالی بجائے۔ اس عمل کے دوران کھوئی ہوئی چیز کا تصور ذہن میں رکھے انشاء اللہ بہت جلد وہ چیز مل جائے گی۔ نہایت مجرب عمل ہے۔

٢٢- مفرور کی واپسی

جمعہ کی رات میں نماز عشاء کے بعد دو رکعت نماز پڑھے پہلی

رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ قُلْ یٰٓاَیُّھَا الْکٰفِرُوْنَ اور دوسری رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ پڑھے پھر سلام پھیر کر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر دو ہزار مرتبہ مع بسم اللہ کے سورہ وَالضُّحٰی پڑھے اور پھر گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر بھاگے ہوئے کے واپسی کی دعا مانگ کر سو جائے انشاء اللہ مفرور بہت جلد واپس آجائے گا۔

۲- دو رکعت نفل نماز پڑھ کر ایک سو انیس مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دعا مانگے انشا اللہ بھاگا ہوا شخص واپس آجائے گا۔ یہ عمل چالیس روز تک جاری رکھے۔ آیت یہ ہے۔

اِنَّ الَّذِیْ فَرَضَ عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لَرَادُّکَ اِلٰی مَعَادٍ ٥

۳- اگر کوئی شخص بھاگ گیا ہو تو چالیس روز تک اس آیت کو لکھ کر چرخہ میں باندھ کر روزانہ ساٹھ مرتبہ الٹا گھمائے۔ انشاء اللہ اس عمل کی برکت سے بھاگا ہوا واپس آجائے گا۔

فَرَدَدْنٰهُ اِلٰی اُمِّهٖ کَیْ تَقَرَّ عَیْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ
اَنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ وَّلٰکِنَّ اَکْثَرَهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ.

۴- چالیس روز تک روزانہ دو رکعت نفل نماز پڑھ کر ایک سو انیس مرتبہ یہ دعا پڑھے اور پھر بھاگے ہوئے کی واپسی کے لئے دعا کرے۔ انشاء اللہ مفرور واپس آجائے گا۔

یٰبُنَیَّ اِنَّهَآ اِنْ تَکُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فِیْ
صَخْرَةٍ اَوْ فِی السَّمٰوٰتِ اَوْ فِی الْاَرْضِ یَاْتِ بِهَا اللّٰهُ
اِنَّ اللّٰهَ لَطِیْفٌ خَبِیْرٌ ٥

۲۳- زوجین میں محبت

شب جمع میں نصف رات گزر جانے کے بعد باوضو تین مرتبہ یہ دعا پڑھے۔

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللّٰہُ لا اِلٰہ اِلَّا ھُوَ عَلَیْہِ
تَوَکَّلْتُ وَھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ○

اس کے بعد پھر یہ کہے۔

اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الرَّبُّ حَسْبِیْ مِنْ فَلاں بن فلانہ او فلانہ
بت فلانہ اَعْطِفْ قَلْبَہٗ اَوْقَلْبَھَا اِلَیَّ وَ ذَلِّلْہُ اَوْ ذَلِّلْھَا اِلَیَّ.

فلاں بن فلاں کی جگہ اس شخص اور اس کی ماں کا نام لیوے جس کی محبت مطلوب ہے۔

اور فلانہ بنت فلانہ اس وجہ سے ہے کہ اگر وہ عورت ہے تو اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لے۔ اور مرد ہے تو قَلْبَہٗ استعمال کرے اور اگر عورت ہے تو قَلْبَھَا۔ اور اگر ماں کا نام معلوم نہ ہو تو ابن حوا یا بنت حوا کہہ دے آزمودہ ہے لیکن ناجائز مقصد کے لئے ہرگز استعمال نہ کرے ورنہ نقصان ہوگا۔

۲- اللّٰہ اَکْبَرُ پانچ سو مرتبہ۔ بِسْمِ اللّٰہِ دس مرتبہ۔ آیۃ الکرسی دس مرتبہ سورہ اخلاص اور معوذتین دس مرتبہ اور یہ دعا ایک کاغذ پر لکھے۔

اَللّٰھُمَّ اَعْطِفْ قَلْبَ فلان بن فلانہ او فلانہ بنت
فلانہ علیٰ بن فلانہ او بنت فلانہ

پہلی فلاں بن فلانہ کی جگہ مطلوب کا نام لے اور دوسری جگہ طالب کا نام لکھے اور پھر اسے اپنے داہنے بازو پر باندھ لے۔ انشاء للہ مقصد پورا ہوگا بشرطیکہ جائز مقصد کے لئے استعمال کیا گیا ہو۔

۳- جس کا شوہر ناراض ہو وہ اپنے شوہر کو یہ آیت مٹھائی پر دم کر کے کھلائے انشاء اللہ اس کی ناراضگی دور ہو جائے گی۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَاداً يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَشَدُّ حُبّاً لِّلّٰهِ ط وَلَوْيَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعاً وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ.

۴- اگر "سورۂ یوسف" لکھ کر بازوں پر باندھے تو بیوی اسے دل سے چاہنے لگے گی۔

۵- اگر کسی میٹھی چیز پر لفظ "بَدُوحُ" لکھ کر جسے کھلائے وہ اس شخص کو بہت چاہنے لگے اور اس سے محبت کرے۔ اور اگر لفظ بدوح چھری پر لکھ کر کوئی چیز اس چھری سے کاٹ کر کسی کو کھلائے تو وہ شخص اس سے محبت کرنے لگے گا لیکن جائز موقع پر استعمال کرے۔

۶- اگر شوہر و بیوی میں ناراضگی ہو تو اس نقش کو تعویذ بنا کر موم جامہ کر کے زوجین میں سے جس کو ضرورت ہو اپنے داہنے بازوں میں باندھ لے انشاء اللہ تمام اختلاف دور ہو جائیں گے۔

۷۸۶

۲۴۳و	۲۵۶ر	۲۵۳و	۲۵۰ھ
۲۵۴د	۲۴۹و	۲۴۴و	۲۵۵و
۲۴۸د	۲۵۱و	۲۸۵و	۲۴۵و
۲۵۷و	۲۴۶د	۲۴۷و	۲۵۲د

"یا ودود الحی القیوم دارندہ ایں نقش معظم سورۂ اخلاص راقَلّب قَلْبَ فلان ولد فلان علیٰ حُبِّ فلان ولد فلان حُبٌّ شدیداً مطیعاً عاشقاً دائماً اَبداً ابداً ابداً یا مُقَلِّبَ القُلُوبِ وَالاَبصارِ"

۲۴- اولاد ہونا

جب عورت حیض سے فارغ ہو جائے تو بکری کا ایک فربہ بچہ ذ کرکے دیگچی میں پکا کر اس کی یخنی دن میں پی لے۔ اور یہ آیت پاک وصاف برتن میں اس طرح لکھے کہ کوئی حرف مٹا ہوا نہ ہو۔ اور پھر اسے دھو کر وہ پا بوقت جماع عورت پی لے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے استقرار حمل ہ جائے گا اور بچہ پیدا ہوگا۔

الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ○ مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اھدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیھم

غیر المغضوب علیھم ولا الضالین ٥ اللھم صل علی محمد وعلی اٰل محمد کما صلیت علی ابراھیم وعلی اٰل ابراھیم انک حمید مجید ٥ ابجد ھوز حطی کلمن سعفص قرشت ثخذ ضظغ اِنَّمَآ اَنَا رَسُوْلُ رَبِّکَ لِاَھَبَ لَکِ غُلَاماً زَکِیاً قَالَ کَذٰلِکَ قَالَ رَبُّکَ ھُوَ عَلَیَّ ھَیِّنٌ وَلِنَجْعَلَهٗ اٰیَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَکَانَ اَمْراً مَّقْضِیّاً فَحَمَلَتْهُ بِاِذْنِ اللّٰہِ تَعَالٰی فَحَمَلَتْهُ بِعَوْنِ اللّٰہِ تَعَالٰی فَحَمَلَتْ بِلُطْفِ اللّٰہِ تَعَالٰی فَحَمَلَتْهُ بِلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰہِ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهٖ مَکَاناً قَصِیاً ط اِنَّمَا اَمْرُهٗ اِذَا اَرَادَ شَیئاً اَنْ یَّقُوْلَ لَهٗ کُنْ فَیَکُوْنَ ط فَسُبْحَانَ الَّذِیْ بِیَدِهٖ مَلَکُوْتُ کُلِّ شَیْئٍ وَاِلَیْهِ تُرْجَعُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّکَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلَی الْمُرْسَلِیْنَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ٥

۲۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد جماع پر قادر نہ ہو تو دو ابلے ہوئے انڈے لے کر چھلکا اتار کر ان میں سے ایک پر وَالسَّمَآءَ بَنَیْنٰهَا بِاَیْدٍ وَّ اِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ لکھ کر مرد کھائے اور دوسرے پر وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ لکھ کر عورت کو کھلائے اور پھر جماع کرے انشاء اللہ وہ جماع پر قادر ہو جائے گا اور استقرار حمل ہوگا۔ یہ عمل

چالیس روز تک ہونا چاہیے۔

۳۔ ایک پاک برتن میں اَللّٰہُ الرَّحْمٰنُ کے حروف الگ الگ لکھ کر اسے گلاب سے جس میں کچھ مشک بھی ملا ہوا ہو۔ دھو کر عورت کو حیض سے فراغت کے وقت پلائے پھر ہمبستری کرے، انشاء اللہ استقرار حمل ہوگا۔

۴۔ جس کے اولاد نہ ہوتی ہو وہ اس آیت کو بکثرت پڑھا کرے تو انشاء اللہ مقصد پورا ہوگا۔

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ

۵۔ شب جمعہ میں نصف رات کے بعد مٹھائی یا حلوے کے ٹکڑے پر کسی ایسی جگہ بیٹھ کر جہاں کوئی دیکھ نہ سکے یہ آیت لکھے اور اسے عورت کو کھلائے اور پھر جما کرے۔ جب کہ شوہر لکھنا پڑھنا جانتا ہو ورنہ تو کسی اور سے لکھوائے یہ عمل تین جمعوں کی رات میں تین مرتبہ ہوگا۔ انشاء اللہ اس عمل کی برکت سے ضرور بچہ پیدا ہوگا۔ آیت یہ ہے:

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ
وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا
كَثِيْرًا وَّنِسَآءً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ
وَالْاَرْحَامَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًاo

۲۵- برائے عقیمہ

جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو یہ دعاء پڑھے اور شوہر

سے ہمبستری کرے انشاء اللہ ضرور استقرار حمل ہوگا۔

یَا قَادِرُیَا ذاالْعَرْشِ الْکَرِیْمِ وَالْمَلْکُ الْقَدِیْمُ یَا اللّٰہُ
یَا رَحْمٰنُ یَارَحِیْمُ یَا سَتَّارُ یَا غَفَّارُ یَا اَحَدُ یَا مُحَمَّدُ
صلی اللّٰہ علی خیر خَلْقِہٖ محمد واٰلہ اجمعین.

۳- عورت کے حیض سے فارغ ہوجانے کے بعد یہ آیت لکھ کر موم جامہ کر کے گھڑے وغیرہ میں ڈال دے۔ اور اس گھڑے سے شوہر و بیوی دونوں پانی پیا کریں۔ جب پانی کم ہوجائے تو پھر اور پانی ملا دیں۔ اور اس دوران ہمبستری کرتا رہے۔ انشاء اللہ پہلے پاکی میں مطلب حاصل ہوجائے گا۔ ورنہ تین حیض تک یہ پانی دونوں پیتے رہیں۔ ضرور مقصد پورا ہوگا مجرب ہے آیت یہ ہے:

یٰحییٰ خُذِالْکِتَابَ بِقُوَّةٍ وَّاٰتَیْنَاہُ الْحُکْمَ صَبِیّاً
وصلی اللّٰہ علی خیر خلقہ محمد و اٰلہ اجمعین
برحمتک یا ارحم الراحیمین.

۴- چالیس لونگوں پر اس آیت کو سات سات مرتبہ پڑھ کر دم کرے اور حیض سے فارغ ہونے کے بعد روزانہ ایک لونگ کھائے اور اس دوران میں شوہر ہمبستری کرتا رہے۔ انشاء اللہ استقرار حمل ہوگا۔

اَوْ کَظُلُمَاتٍ فِی بَحْرٍ لُّجِّیٍّ یَّغْشَاہُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِہٖ
مَوْجٌ مِنْ فَوْقِہٖ سَحَابٌ ط ظُلُمَاتٍ بَعْضُھَا فَوْقَ بَعْضٍ
اِذَا اَخْرَجَ یَدَہٗ لَمْ یَکَدْ یَرَاھا وَمَنْ لَّمْ یَجْعَلِ اللّٰہُ لَہٗ
نُوْراً فَمَا لَہٗ مِنْ نورہ

۲۶- سہولتِ ولادت

دردِ زہ کے وقت عورت کے بائیں ران میں یہ لکھ کر باندھنے سے ولادت میں سہولت ہوتی ہے۔

یـا خـالِقُ النَّفْسِ مِنَ النَفْسِ ویا مخرِج النفس مِنْ النفس خلِّصْهَا.

۲- ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ دردِ زہ والی عورت کے ران میں یہ لکھ کر باندھا جائے تو ولادت میں سہولت ہوگی۔

بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوْعَدُوْنَ لَمْ يَلْبَثُوْا اِلَّا سَعَةً مِّنَ نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ اِلَّا الْقَوْمُ الْفٰسِقُوْنَ.

۳- جو عورت دردِ زہ میں مبتلا ہو اس کے پیٹ یا کمر پر یہ پڑھ کر دم کرنے یا لکھ کر باندھنے سے ولادت میں سہولت ہو۔

اَوَلَمْ يَرَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيٍ حَيّ ط اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ.

۴- ولادت میں سہولت کے لئے ان آیتوں کو لکھ کر عورت کے بائیں

ران پر باندھیں مگر ولادت کے فوراً بعد تعویذ کھول دیں۔

اِذَ السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۝ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ وَاِذَ الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۝

۵- اس دعا کو لکھ کر دردزہ والی عورت کی ران میں باندھے اور اسے لکھ کر دھو کر پلانے سے ولادت میں آسانی ہوتی ہے نہایت مفید و مجرب عمل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ وَمِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، اِذَ السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ۝ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ۝ وَاِذَ الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ۝ اَللّٰهُمَّ يَا مُخَلِّصَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ وَيَا مُخْرِجَ النَّفْسِ مِنَ النَّفْسِ وَيَا عَلِيْمُ يَا قَدِيْرُ خَلِّصْ فلانه مِمَّا فِيْ بَطْنِهَا مِنْ وَّلَدِهَا خَلَاصًا

فِیْ عَافِیَۃٍ اِنَّکَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ. فلانہ کی جگہ اس عورت کا نام لکھے۔

۲۷- نس بندی

اگر کسی نے جادو وغیرہ کے ذریعہ نس بندی کردی ہو جس کی وجہ سے وہ جماع پر قادر نہ ہو تو ایک تلوار کے اوپر یہ عمل لکھ کر اس تلوار سے سیاہ مرغی کا ایک ابلا ہوا انڈا ٹھیک درمیان سے کاٹ کر اس کے دو حصہ کرے ایک حصہ عورت کھالے اور دوسرا ٹکڑا مرد کھالے۔ انشاء اللہ اس عمل کی برکت سے اس کی نس بندی کھل جائی گی۔ مجرب ہے۔

"بکصم لا لا وم ما ما لالا لا ہ ہ ہ"

۲- نس بندی کھلنے کی غرض سے اس آیت کو لکھ کر تعویذ بنا کر مرد کے گلے میں لٹکایا جائے انشاء اللہ فائدہ پہنچے گا۔

فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ وَّفَجَّرْنَا
الْاَرْضَ عُيُوْناً فَالْتَقَى الْمَآءُ علىٰ اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَ
حَمَلْنَاهُ علىٰ ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّ دُسُرٍ تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا
جَزَآءً لِّمَنْ قَانَ كُفِرَ.

۳- اس دعا کو لکھ کر تعویذ بنا کر مرد کے گلے میں ڈالا جائے انشاء اللہ اس سے قدرت جماع ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ. قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ اَللّٰهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ. قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اِلٰهِ النَّاسِ وَمِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ وَيَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّيْ نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَا اَمْتًا اَوَلَمْ يَرَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ فَلَمَّا تَجَلّٰى رَبُّهٗ لِلْجَبَلِ جَعَلَهٗ دَكًّا وَّخَرَّ مُوْسٰى صَعِقًا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ

كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ وَهُوَ الَّذِیْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَراً فَجَعَلَهٗ نَسَباً وَّصِهْراً وَّكَانَ رَبُّكَ قَدِيْراً. وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً وَّمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَیْءٍ قَدْراً.

اس کے بعد مرد اور عورت کا نام لکھ کر یہ عمل پڑھ کر اس تعویذ پر پھونک مارے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ اَنْ تَجْمَعَ بَین فلان بن فلانه وبین فلانه بنت فلانه بحَقِّ هٰذِهِ الْاسمآءِ وَالْاٰيٰتِ اِنَّكَ علی كُلِّ شَیْءٍ قَدِيْر باهیا شر اهیا اصبا ؤت ال شد ای وَلَا حَوْلَ وَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِيْمِ فی فی فی فی تم و كمل.

فلاں بن فلانہ کی جگہ مرد اور اس کی ماں کا نام لے۔ اور فلانہ بنت فلانہ کی جگہ عورت اور اس کی ماں کا نام لے۔

۴- اگر کسی شخص کی جادو وغیرہ کے ذریعہ نس بندی کردی گئی ہو تو کسی پاک برتن پر سورۃ لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اس طرح لکھ کر کہ کوئی حرف مٹا نہ ہو دھو کر اسے پلایا جائے۔ یہ عمل تین دن تک کیا جائے انشاء اللہ وہ جماع پر قادر ہو جائے گا۔

۲۸- حفاظتِ حمل

یہ آیت لکھ کر تعویذ بنا کر عورت کے گلے میں ڈال دے۔ بفضلہ تعالیٰ اسقاطِ حمل نہ ہوگا۔

وَلَبِثُوْا فِیْ کَھْفِھِمْ ثَلٰثَ مِاءَۃٍ وَازْدَادُوْا تِسْعاً قُلِ اللّٰہُ اَعْلَمُ.

۲- گلاب و زعفران سے یہ آیت ہرن کی جھلی پر لکھ کر حاملہ کی چھنگلیاں میں باندھ دے، انشاء اللہ حاملہ اور اس کے پیٹ کا بچہ آفتوں سے محفوظ رہے گا۔

اِذْ قَالَتِ الْمْرَاَۃُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَکَ مَا
فِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ
الْعَلِیْم ط فَلَمَّا وَضَعَتْھَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُھَا
اُنْثٰی وَاللّٰہُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَیْسَ الذَّکَرُ
کَالْاُنْثٰی وَاِنِّیْ سَمَّیْتُھَا مَرْیَمَ وَاِنِّیْ اُعِیْذُھَا بِکَ
وَذُرِّیَّتَھَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ. فَتَقَبَّلَھَا رَبُّھَا
بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَاَنْبَتَھَا نَبَاتاً حَسَناً وَکَفَّلَھَا زَکَرِیَّا
کُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْھَا زَکَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَھَا
رِزْقاً قَالَ یَامَرْیَمُ اَنّٰی لَکِ ھٰذَا قَالَتْ ھُوَ مِنْ عِنْدِ
اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ.

۳- یہ آیتیں لکھ کر حمل کے ابتدائی دنوں سے چالیس روز تک حاملہ

عورت کے باندھ دیں۔ چالیس روز کے بعد کھول دیں۔ پھر نویں مہینہ میں باندھ دیں۔ پھر بچہ پیدا ہونے کے فوراً بعد وہ عورت سے کھول کر بچہ کے گلے میں ڈال دیں۔ انشاء اللہ اس عمل کی برکت سے بچہ صحیح وسالم رہے گا۔

آیات یہ ہیں۔

وَالَّتِیْ اَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیْهَا مِنْ رُّوْحِنَا
وَجَعَلْنَا هَا وَابْنَهَا اٰیَةً لِّلْعَالَمِیْنَ اِنَّ هٰذِهٖ اُمَّتُکُمْ اُمَّةً
وَّاحِدَةً وَّاَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوْنِ وَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ بَیْنَهُمْ
کُلٌّ اِلَیْنَا رَاجِعُوْنَ.

۲۹-اولاد نرینہ

جس عورت کے یہاں لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہوں لڑکا نہ ہوتا ہو تو یہ دعا لکھ کر دھو کر حاملہ کو پلائے انشاء اللہ لڑکا پیدا ہوگا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم لاء لا الاوس وَاللّٰهُ مِنْ
وَّرَآئِهِمْ مُحِیْطٌ حیث یلون بالحق ده فاه ح ص د.

۲- اگر کسی عورت کو لڑکیاں ہی پیدا ہوتی ہوں، لڑکا پیدا نہ ہوتا ہو تو یہ نقش ستر کاغذ پر لکھ کر روزانہ ایک کاغذ گولی بنا کر مٹھائی وغیرہ میں رکھ کر عورت کو کھلائیں۔ انشاءاللہ لڑکا پیدا ہوگا۔ اگر حمل میں لڑکی ہوگی تو اسقاط ہو جائے گا۔

سُبْحَانَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ کُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ

اَلْاَرْضَ وَمِنْ اَنْفُسِكُمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ.

۳- جسے اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو تو استقرار حمل کے تین مہینہ میں ہرن کی جھلی پر یہ آیت گلاب و زعفران سے لکھ کر حاملہ کے باندھا جائے انشا اللہ مقصد پورا ہوگا۔ اور لڑکا پیدا ہوگا۔

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَاتَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَاتَزْدَادُ وَكُلُّ شَىْءٍ عِنْدَهٗ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ يَا زَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِنِ اسْمُهٗ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا بحق مريم عيسى ابنا صالحاً طويل العمر بحق محمد و اله.

۴- سورۂ یوسف اس طرح لکھ کر کہ کوئی حرف مٹا ہوا نہ ہو تعویذ بنا کر عورت کے گلے میں ڈال دے۔ انشاء اللہ لڑکا پیدا ہوگا۔

۳۰- حفاظت اطفال

اس آیت کو لکھ کر بچے کے گلے میں ڈالنے سے تمام امراض سے حفاظت رہتی ہے۔

اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ ط مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ط اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ○ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَّا اُرْسِلْتُ بِهٖ

اِلَیْکُمْ وَیَسْتَخْلِفُ رَبِّیْ قَوْماً غَیْرَکُمْ وَلَا تَضُرُّوْنَہٗ
شَیْئاً اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ.

۲۔ بچہ کے پیدا ہونے کے وقت سورۂ بلدؔ لکھ کر اس کے گلے میں ڈالا جائے تو وہ بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔

۳۔ اگر پیدائش کے وقت سورۂ جاثیہ لکھ کر موم جامہ کر کے بچہ کے گلے میں پہنایا جائے تو آسیب وغیرہ سے حفاظت رہتی ہے۔

۴۔ اگر یہ آیات زعفران سے جس میں کچھ مشک بھی ملا ہوا ہو لکھ کر تعویذ بنا کر بچہ کے گلے میں لٹکا دیا جائے تو رونے، ڈرنے اور بدخوابی سے حفاظت رہتی ہے۔

اِذْ قَالَتْ امْرَاَتُ عِمْرَانَ رَبِّ اِنِّیْ نَذَرْتُ لَکَ
مَافِیْ بَطْنِیْ مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّیْ اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ
الْعَلِیْمُ ○ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا
اُنْثٰی وَاِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَاِنِّیْ اُعِیْذُهَا بِکَ
وَذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ. فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا
بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ وَّاَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَّکَفَّلَهَا زَکَرِیَّا
کُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَکَرِیَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا
رِزْقاً قَالَ یٰمَرْیَمُ اَنّٰی لَکِ هٰذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ
اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَآءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ.

۳۱- بچہ کا زندہ نہ رہنا

اگر بچہ زندہ نہ رہتا ہو تو اکتالیس ۴۱ تار نیلے سوت کے بچہ کی ماں کے قد کے برابر لے کر اس پر اکتالیس مرتبہ سوۂ مزمل پڑھے اور ہر مرتبہ گرہ دیتا جائے جب اکتالیس گرہ پوری ہو جائیں تو عورت کے کمر میں باندھ دے اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس دھاگے کو موم جامہ میں سی کر بچہ کے گلے میں باندھ دے۔ اس طرح گیارہ سال تک مسلسل ہر سال دھاگوں پر سورۂ مزمل پڑھ کر بچہ کے گلے میں باندھا جاتا رہے۔ جب بچہ گیارہ سال کا ہو جائے تو ان سب گنڈوں کو کسی پاک جگہ پر دفن کر دیں انشاء اللہ اس عمل کی برکت سے بچہ زندہ رہے گا۔

۲- اگر کسی عورت کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو تو ایک سفید مرغ ذبح کر کے اس کے خون سے یہ نقش لکھ کر اس کی چونچ میں یہ نقش باندھ کر اس مرض کو مع تعویذ کے ایک کوری ہانڈی میں رکھ کر اسے عورت کی چارپائی کے نیچے سرہانے کی جانب گاڑ دیا جائے اور کبھی نہ نکالا جائے۔ بچہ کی پیدائش بھی اسی جگہ ہونی چاہئے انشاللہ تعالیٰ بچہ زندہ رہے گا نقش یہ ہے۔

۱۷	۳۱	۲۸	۲۴
۲۹	۲۳	۱۸	۳۰
۲۲	۲۶	۳۲	۱۹
۳۳	۲۰	۲۱	۲۷

۳۔ جس عورت کا بچہ زندہ نہ رہتا ہو تو دیسی اجوائن پانچ چھٹانک اور سیاہ مرچ ڈھائی چھٹانک لے کر دونوں کو ملا کر دوشنبہ کے دن دوپہر کو اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف اور چالیس مرتبہ سورۂ والشمس اس طرح پڑھے کہ ہر مرتبہ ایک بار درود شریف پڑھ کر شروع کرے اور ختم ہونے پر ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھ لے اور پھر اجوائن و سیاہ مرچ پر دم کرے پھر حمل کے دن سے لے کر بچہ کے دودھ چھڑانے تک روزانہ صبح کو عورت ایک دانہ سیاہ مرچ اور پانچ دانے اجوائن کے کھایا کرے۔ اگر بچہ کو بھی دیا جائے تو اور بہتر ہے۔ انشاء اللہ اس عمل کی برکت سے بچہ زندہ رہے گا۔ نہایت مجرب ہے۔

۳۲۔ برائے حب

اگر کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے بشرطیکہ جائز ہو تو شب جمعہ میں نصف رات کے بعد تین مرتبہ یہ آیت پڑھے:

فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ عَلَیْہِ
تَوَکَّلْتُ وَھُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ اَللّٰھُمَّ اَنْتَ
الرَّبِّ حَسْبِیْ مِنْ فلاں ابنِ فلانہ او فلانہ بِنْتِ
فلانہ اَعْطِفْ قَلْبَہٗ اَوْقَلْبَھَا اِلَیَّ.

فلاں ابن فلاں کی جگہ اس شخص اور اس کی ماں کا نام لے جس کی محبت مطلوب ہے اور اگر ماں کا نام معلوم نہ ہو تو ابن حوا یا بنتِ حوا کہہ دے۔

۲۔ اگر کسی مرد یا عورت کو اپنی محبت میں مبتلا کرنا ہو تو اِ یکھ کے پتہ پر اس نقش کو لکھ کر آگ میں جلائے انشاء اللہ وہ محبت کرنے لگے گا۔

ع ع ع ع فلاں بنت فلانہ علی حب فلاں بن فلاں (پہلے فلاں پر اس کا نام لکھے جس کی محبت مطلوب ہے اور دوسرے فلاں کی جگہ طالب کا نام لکھے

۳۔ اگر کسی کی محبت مطلوب ہے تو اس نیت سے نصف رات گزرنے کے بعد ایک ہی نشست میں ایک ہزار سات سو مرتبہ ''یا لطیف انت اللہ'' پڑھے یہ عمل سات روز تک جاری رکھے انشاء اللہ مقصد حاصل ہوگا۔

۴۔ اس نقش کو لکھ کر آگ میں جلائیں محبوب محبت میں بے قرار ہوجائے گا لیکن مقام محبت ناجائز نہ ہو۔

ااا لا ! دددا ءاا ءام ا اا ، اا ، ا ، اا ، اا ۵

دع دع دع دع دع دع دع

الحب فلان ابن فلان

فلاں ابن فلاں کی جگہ مطلوب کا نام لکھے۔

۵۔ یہ آیت مٹھائی پر دم کر کے جسے کھلائے اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی۔

هُوَ الَّذِیْ اَیَّدَکَ بِنَصْرِہٖ وَبِالْمُؤْمِنِیْنَ وَاَلَّفَ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَافِی الْاَرْضِ جَمِیْعاً مَّا اَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰکِنَّ اللّٰہَ اَلَّفَ بَیْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ.

٦۔ اس آیت کا مٹھائی پر دم کر کے کھلانا محبت کے واسطے مجرب ہے۔

یُوْسُفُ اَعْرِضْ عَنْ هٰذَا وَاسْتَغْفِرِیْ لِذَنْبِکِ اِنَّکِ کُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِیْنَ ۝ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِی الْمَدِیْنَةِ امْرَاَةُ الْعَزِیْزِ تُرَاوِدُ فَتٰهَا عَنْ نَّفْسِهٖ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا اِنَّا لَنَرٰهَا فِیْ ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ۔

۷۔ جو شخص اس آیت کو قبلہ رو بیٹھ کر سرمہ پر ایک سو ایک بار تسخیر و محبت کی نیت سے پڑھ کر اپنی آنکھ میں لگائے جو کوئی اسے دیکھے گا محبت کرنے لگے گا۔ وہ عمل یہ ہے۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَا بَدُوْحُ یَا بَدُوْحُ یَا بَدُوْحُ یَا وَدُوْدُ یَا وَدُوْد یَا وَدُوْدُ یَا ذَا الْعَرْشِ الْمَجِیْدُ یَا مُبْدِئُ یَا مُعِیْدُ فَعَّالٌ لِّمَا یُرِیْدُ بِحَقِّ لَقَدْ جَآءَکُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَؤُفٌ رَّحِیْمٌ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ۔

۸۔ چیت، اساڑھ، اسوج، اور پوہ کے مہینوں میں سے کسی بھی مہینہ کے نوچندی جمعرات کو یہ عمل شروع کرے۔ بعد عشاء محبوب کا تصور ذہن میں رکھ کر اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف اور تین ہزار ایک سو اٹھائیس مرتبہ یہ آیت پڑھے انشاء اللہ مقصد حاصل ہوگا۔

لَوْ اَنْفَقْتَ مَافِی الْاَرْضِ جَمِیْعاً مَّا اَلَّفْتَ بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰکِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَیْنَهُمْ اِنَّهٗ عَزِیْزٌ حَکِیْمٌ. عَسَی اللّٰهُ اَنْ یَّجْعَلَ بَیْنَکُمْ وَبَیْنَ الَّذِیْنَ عَادَیْتُمْ مِّنْهُمْ مَوَدَّةًط وَاللّٰهُ قَدِیْرٌ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ الرَّحِیْمٌ.

۹- کورے کاغذ پر اس تعویذ کو لکھ کر مرغ کے انڈے میں رکھ کر زمین میں دفن کر دیں انشاء اللہ مطلوب محبت میں مبتلا ہو جائے گا لیکن مطلوب کی توجہ جائز ہو۔

۱۱طم۱۱۱۹۱۱۱ح ۸۹۸۱ط۱۱۱

فلاں بن فلاں علی حب فلاں بن فلاں

پہلے فلاں کی جگہ مطلوب اور اس کی ماں کا نام اور دوسرے فلاں کی جگہ طالب اور اس کی ماں کا نام لکھے۔

۱۰- اس آیت کو مٹھائی پر دم کر کے جس کو کھلایا جائے وہ محبت کرنے لگے گا۔

اِنِّیْ اَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَیْرِ عَنْ ذِکْرِ رَبِّیْ حَتّٰی تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوْهَا عَلَیَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ.

۳۳- حاکم کے شر سے حفاظت

اگر کسی ایسے شخص یا حاکم کے پاس جا رہا ہو جس سے کسی شر کا

اندیشہ ہو تو جاتے وقت کٓھٰیٰعٓصٓ. حٰمٓعٓسٓقٓ اس ترکیب سے پڑھے کہ ہر حرف پر اپنی انگلیاں بند کرتا جائے۔ ابتداء اپنے داہنے ہاتھ کے انگوٹھے سے کرے اور ختم اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے پر کرے دونوں لفظ ملا کر دس حرف ہوئے۔

جب اپنی دسوں انگلیاں بند کر چکے تو اپنے دل میں سورہ فیل پڑھے اور جب لفظ تَرْمِیْھِمْ پر پہنچے تو اسے دس مرتبہ پڑھے اور ہر مرتبہ اپنی بند انگلیاں کھولتا جائے۔ انشاء اللہ اس عمل کے بعد اس شخص کے شر سے محفوظ رہے گا مجرب ہے۔

۲- ان آیتوں کو شب جمعہ میں بعد نماز عشاء لکھے اور اپنے داہنے بازو پر باندھ کر حاکم کے سامنے جائے تو اس کا غیض و غضب کم ہو جائے گا۔

اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُوْنَ فِی السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْکَاظِمِیْنَ
الْغَیْظَ وَالْعَافِیْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰہُ یُحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ
وَالَّذِیْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْظَلَمُوْا اَنْفُسَھُمْ ذَکَرُوْا
اللّٰہَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِھِمْ وَمَنْ یَغْفِرِ الذُّنُوْبَ اِلَّا اللّٰہُ
وَلَمْ یُصِرُّوْا عَلٰی مَا فَعَلُوْا وَھُمْ یَعْلَمُوْنَ اُولٰٓئِکَ
جَزَآؤُھُمْ مَّغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّھِمْ وَجَنّٰتٌ تَجْرِیْ مِنْ
تَحْتِھَا الْاَنْھَارُ خَالِدِیْنَ فِیْھَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِلِیْنَ ○

۳- اگر جھوٹی گواہی یا حاکم کے غلط فیصلہ کا اندیشہ ہو تو پیشی کے وقت سات مرتبہ یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد تین مرتبہ وَاللّٰہُ غَالِبٌ عَلٰی

اَمْرِهٖ پڑھ کر اپنے بدن پر پھونک دے انشاء اللہ ہر طرح کے شر سے محفوظ رہے گا۔ دعا یہ ہے:

سُبْحَانَ اللّٰہِ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرِکُوْنَ وَرَبُّکَ یَعْلَمُ مَا
تُکِنُّ صُدُوْرُھُمْ وَمَا یُعْلِنُوْنَ وَھُوَ اللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ ط
لَہُ الْحَمْدُ فِی الْاُوْلٰی وَالْاٰخِرَۃِ وَلَہُ الْحُکْمُ وَاِلَیْہِ
تُرْجَعُوْنَ.

۴۔ اگر کسی سے حاکم سخت خفا ہو تو اس کے سامنے جاتے ہوئے تین مرتبہ یہ آیت پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے۔

کَمْ اٰتَیْنٰھُمْ مِنْ اٰیَۃٍ بَیِّنَۃٍ ط وَمَنْ یُّبَدِّلْ نِعْمَۃَ اللّٰہِ مِنْ
بَعْدِ مَا جَآءَتْہُ فَاِنَّ اللّٰہَ شَدِیْدُ الْعِقَابِ.

۵۔ اگر حاکم ناراض ہو تو پہلے تین مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر کھیعص پڑھے اور ہر حرف پر اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیاں بند کرتا جائے پھر اسی طرح حمعسق کے ہر حرف پر اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیاں بند کرتا جائے جب دسوں انگلیاں بند ہو جائیں تو پھر کھیعص پڑھے اور اپنے داہنے ہاتھ کی انگلیاں کھولتا جائے اور حمعسق کے ہر حرف پر اپنے بائیں ہاتھ کی انگلیاں کھولے۔ پھر اسی طرح حاکم کی طرف پھونک مار دے انشاء اللہ وہ نرم پڑ جائے گا۔

۳۴۔ ظالم کے ظلم سے پناہ

جو شخص ظالم کے ظلم اور اس کے شر سے تنگ آ گیا ہو وہ دس دن

تک روزانہ سو سو مرتبہ سورۂ فیل پڑھے اور پڑھتے وقت ظالم کا تصور ذہن میں رکھے دسویں دن کسی نہر کے کنارے یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پانی بہہ رہا ہو بیٹھ کر حسب معمول سو مرتبہ سورۂ فیل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰھُمَّ اَنْتَ الْحَاضِرُ الْمُحِیْطُ بِمَکْنُوْنَاتِ الضَّمَآئِرِ اَللّٰھُمَّ اَعَزَّ الظَّالِمُ وَقَلَّ النَّاصِرُ وَاَنْتَ الْمُطَّلِعُ الْعَالِمُ اَللّٰھُمَّ اِنَّ فُلَاناً ظَلَمَنِیْ وَاٰذَانِیْ وَلَا یَشْھَدُ بِذَالِکَ غَیْرُکَ اَللّٰھُمَّ اِنَّکَ مَالِکُہٗ فَاَھْلِکْہُ اَللّٰھُمَّ سَرْبِلْہُ سِرْبَالَ الْھَوَانِ وَقَمِّصْہُ قَمِیْصَ الرَّدٰی اَللّٰھُمَّ اَقْصِفْہُ فَاَخَذَھُمُ اللّٰہُ بِذُنُوْبِھِمْ وَمَا کَانَ لَھُمْ مِنَ اللّٰہِ مِنْ وَّاقٍ.

فلاناً کی جگہ اس ظالم کا نام لے اور خط کشیدہ جملہ کو دس مرتبہ پڑھے، انشاء اللہ اس عمل کے نتیجہ میں ظالم کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔ بلکہ یہ عمل ظالم کی ہلاکت کا سبب بنے گا مجرب ترین عمل ہے۔

۲۔ جو شخص فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد الم نشرح اور دوسری رکعت میں الم تر کیف پڑھے تو وہ پورے دن ظالم کے ظلم سے بچا رہے گا۔

۳۔ جو شخص اس دعا کو طلوع آفتاب کے وقت تین مرتبہ پڑھ لے وہ تمام دن ہر بلا اور ظالم کے شر سے محفوظ رہے گا۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بِسْمِ اللّٰہِ الْخَالِقِ الْاَکْبَرِ

حَرَزاً مِمَّا اَخَافُ وَاحْذَرُ لَاقُدْرَةَ لِلْمَخْلُوْقِ مَعَ
قدرة الْخَالِقِ كٓهٰيٰعٓصٓ حٰمٓعٓسٓقٓ وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ
لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً وَحَسْبُنَا
اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

۴۔ ظالم کے پاس جاتے ہوئے اگر معوذتین پڑھ لیا جائے تو اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔

۵۔ اگر کسی ظالم سے ایذاء اور تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس دعا کو بکثرت پڑھے انشاء اللہ پھر اس سے کوئی ایذاء نہیں پہنچ سکے گی۔

اِنِّیْ تَوَکَّلْتُ عَلَی اللّٰهِ رَبِّیْ وَرَبِّکُمْ مَّامِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا
هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِیَتِهَا اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ
مُّسْتَقِیْمٍ ○ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُکُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهٖ
اِلَیْکُمْ وَیَسْتَخْلِفُ رَبِّیْ قَوْماً غَیْرَکُمْ وَلَا تَضُرُّوْنَهٗ
شَیْئاً ط اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ.

۶۔ ظالم کے سامنے یہ آیت پڑھنے سے اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔

فَسَتَذْکُرُوْنَ مَااَقُوْلُ لَکُمْ وَاُفَوِّضُ اَمْرِیْ اِلَی اللّٰهِ
اِنَّ اللّٰهَ بَصِیْرٌ بِالْعِبَادِ ط.

۳۵۔ اولاد کا مطیع ہونا

اگر کسی کی اولاد نافرمان ہو تو ہر نماز کے بعد اس آیت کو پڑھا کرے

اور ذُرِّیَتِــی کی جگہ اپنے لڑکے یا لڑکی کا نام ذہن میں رکھے خدانخواستہ ساری اولاد نا ہی فرمان ہو تو ہر ایک کا نام لے۔

وَاَصْلِحْ لِیْ فِیْ ذُرِّیَتِیْ اِنِّیْ تُبْتُ اِلَیْکَ وَاِنِّیْ مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ ○

۲- اگر نافرمان اولاد پر ایک ہزار مرتبہ اَلشَّهِیْدُ پڑھ کر دم کرے تو ہو فرمان بردار ہو جائیگی۔

۳۶- برائے مقبولیت

جو شخص اس آیت کو نگینہ پر کندہ کرا کے یا تعویذ بنا کر پہنے وہ لوگوں میں بہت مقبول ہوگا۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِی السَّمَآءِ بُرُوْجاً وَّزَیَّنّٰهَا لِلنّٰظِرِیْنَ وَحَفِظْنٰهَا مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ رَجِیْمٍ۔

۲۲ جو شخص سورۂ محمد کو لکھ کر آبِ زم زم سے دھو کر پیئے گا اس کی عام طور پر عزت ہوگی نہایت مجرب ہے۔

۳- رمضان شریف کے پہلے جمعہ کو ظہر اور عصر کے درمیان جو شخص یہ آیت لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ لوگوں میں مقبول ہوگا اور اس کی خوب عزت ہوگی۔

وَاِنْ یُّرِیْدُوْا اَنْ یَّخْدَعُوْکَ فَاِنَّ حَسْبُکَ اللّٰهُ هُوَ الَّذِیْ اَیَّدَکَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِیْنَ وَاَلَّفَ بَیْنَ

قُلُوْبِهِمْ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعاً مَّا اَلَّفْتَ
بَیْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰکِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَیْنَهُمْ ط اِنَّهٗ عَزِیْزٌ
حَکِیْمٌ.

۴۔ اسم باری تعالیٰ کو سوتے وقت بکثرت پڑھا کرے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ہوگی یعنی یا عزیز یا اللہ کو۔

۵۔ بعض اولیاء اللہ نے تحریر فرمایا ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم چھ سو پچیس مرتبہ لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک وقار اور عظمت عطا فرمائے گا مجرب ہے۔

۶۔ جو شخص یہ آیت سات مرتبہ پڑھ کر مجلس میں آئے گا تو تمام اہل مجلس اس کی تعظیم کریں گے۔

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاساً یَّغْشٰی
طَآئِفَةً مِّنْکُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ یَظُنُّوْنَ
بِاللّٰهِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِیَّةِ یَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ
الْاَمْرِ مِنْ شَیْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ کُلَّهٗ لِلّٰهِ یُخْفُوْنَ فِیْ
اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا یُبْدُوْنَ لَکَ یَقُوْلُوْنَ لَوْ کَانَ لَنَا مِنَ
الْاَمْرِ شَیْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا قُلْ لَّوْ کُنْتُمْ فِیْ بُیُوْتِکُمْ
لَبَرَزَ الَّذِیْنَ کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰی ضَاجِعِهِمْ
وَلِیَبْتَلِیَ اللّٰهُ مَا فِیْ صُدُوْرِکُمْ وَلِیُمَحِّصَ مَا فِیْ
قُلُوْبِکُمْ وَاللّٰهُ عَلِیْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ.

۳۷- غلام کی سرکشی

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بچہ یا غلام سرکش ہو تو یہ دعا پڑھ کر اس کے کان میں پھونکی جائے اور لکھ کر تعویذ بنا کر پہنایا جائے۔ انشاء اللہ اس کی سرکشی جاتی رہے گی۔

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعاً وَّكَرْهاً وَّاِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ.

۲- بچہ کی بدخوئی کے واسطے اس آیت کو لکھ کر گلے میں ڈالیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَبِثُوْا فِىْ كَهْفِهِمْ صَلٰثَ مِائَةٍ سِنِيْنَ وَازْدَادُوْا تِسْعاً ○ يَوْمَئِذٍ يَّتَّبِعُوْنَ لَه الدَّاعِىَ لَا عِوَجَ لَهٗ وَخَشَعَتِ الْاَصْوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْساً.

۳- اگر کوئی غلام سرکش ہو تو اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر اس آیت کو تین مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کرے انشاء اللہ فرمانبردار ہو جائے گا۔

اِنِّىْ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ رَبِّىْ وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَآبَّةٍ اِلَّا هُوَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ.

۳۸ چوپایہ کی سرکشی

اگر کوئی جانور سرکشی کرتا ہو تو یہ دعا پڑھ کر اس کے کان میں

پھونکے انشاءاللہ وہ تابع ہو جائے گا۔

اَفَغَیْرَ دِیْنِ اللّٰہِ یَبْغُوْنَ وَلَہٗ اَسْلَمَ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ طَوْعاً وَّ کَرْھاً وَّ اِلَیْہِ یُرْجَعُوْنَ.

۳۹- چوپایہ کا عیب

اگر گھوڑے یا کسی چوپایہ کے اندر کوئی عیب ہو تو اس کے چاروں کھروں پر یہ عمل لکھا جائے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرحمن الرحیم فاصابھا اعصارٌ فِیْہِ نارٌ
فاحْتَرَقَتْ عجفون عجفون عجفون شاشیک
شاشیک شاشیک،

۲- چوپایوں میں کوئی عیب ہو تو اس منتر کو لکھ کر اس کے گلے میں لٹکایا جائے۔

ولا ظلھہ ھو ھو ھو دھشت ھر ھر ھر ھر ھر
ھرو ھو ھوھ ھوھوھو ٥٥٥٥٥ امھا ھبا لولوس
دروبر حفرب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی
العظیم.

۴۰- جنات سے حفاظت

ابودجانہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ آنحضور صلی اللہ

علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج رات میں نے ایک آواز چکی کی آواز جیسی سنی اور جو کبھی مکھی کی بھنبھناہٹ کی صورت میں سنائی دیتی اور بجلی جیسی چمک دیکھی۔ میں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک سیاہ سایہ میرے گھر کے صحن کے اوپر کی جانب بڑھ رہا ہے۔ میرے دیکھنے پر اس نے میری جانب انگارہ پھینکا جیسا کہ آگ کی چنگاری ہو۔ تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ قلم دوات لاؤ اور یہ دعا لکھو۔

ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دعاء کو لے کر میں نے تعویذ بنا کر اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو گیا۔ پوری رات جن کے رونے کی آواز آتی رہی۔ اور یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے ابو دجانہ تم نے تو مجھ کو اس تعویذ سے جلا دیا۔ اسے ہٹا لو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی میں تمہارے گھر بلکہ تمہارے پڑوس میں بھی نہیں آوٴں گا۔ اور نہ اس جگہ جہاں یہ تعویذ ہو گا۔

تو جسے رات میں جن نظر آتا ہو وہ اس تعویذ کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر سو جائے اور جس گھر میں آتا ہو وہ اس گھر کے دروازے پر اسے لکھ کر چپکا دے انشاء اللہ کبھی جن نہیں آئے گا نہایت مجرب ہے۔

بِسۡمِ اللّٰہِ الرحمن الرحیم ھٰذا کِتَابٌ مِّنۡ مُّحَمَّدٍ رَسُوۡلِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ الیٰ مَنۡ یَّطۡرُقُ مِنَ الۡعُمَّارِ وَالزُّوَّارِ اِلَّا طَارِقًا یَّطۡرُقُ بِخَیۡرٍ اَمَّا بَعۡدُ فَاِنَّ لَنَا وَلَکُمۡ فِی الۡحَقِّ سَعَةً فَاِنۡ کُنۡتَ عَاشِقًا مُوۡلِعًا اَوۡ فَاجِرًا

مُقْتَحِماً فَهٰذا كِتَابُ اللهِ يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ
وَبِالْحَقِّ اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ وَرُسُلُنَا
يَكْتُبُوْنَ مَاتَمْكُرُوْنَ اُتْرُكُوْا صَاحِبَ كِتَابِيْ هٰذا
وَانْطَلِقُوْا اِلٰى عَبَدَةِ الْاَصْنَامِ وَاِلٰى مَنْ يَّزْعَمُ اَنَّ مَعَ
اللهِ اِلٰهاً اٰخر لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا
وَجْهَهٗ لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ حٰمٓ لَا يُنْصَرُوْنَ
حٰمٓ عٓسٓقٓ نُفَرِّقُ اَعْدَاءُ اللهِ وَبَلَغَتْ حُجَّةُ اللهِ وَلَا
حَوْلَ وَلَا حَوْلَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ
فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ○

۲- جسے آسیب وغیرہ کا اندیشہ ہو وہ یہ دعاء پڑھ لے انشاء اللہ ہر بلا سے محفوظ رہے گا۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللهِ الْخَالِقِ
الْاَكْبَرِنِ حِرْزاً مِّمَّا اَخَافُ وَاَحْذَرُ لَا قُدْرَةَ
لَمَخْلُوْقٍ مَعَ قُدْرَةِ الْخَالِقِ كٓهٰيٰعٓصٓ حٰمٓعٓسٓقٓ
وَعَنَتِ الْوُجُوْهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّوْمِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ
ظُلْماً وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

۳- سورۂ فاتحہ، آیۃ الکرسی اور سورۂ جن کی شروع کی پانچ آیتیں پڑھ کر پانی پر دم کر کے آسیب زدہ کے منہ پر چھینٹا دیا جائے بفضلہٖ تعالیٰ اچھا ہو جائیگا۔

۴- آسیب زدہ پر یہ دعا پڑھ کر دم کرنے سے انشاء اللہ فوراً فائدہ ہوگا۔

بِسْمِ اللهِ الرحمن الرحیم الم المص طه طس طسم کھیعص یٰسٓ والقرآن الحکیم حم عسق ق ن والقلم وما یسطرون.

۵- آسیب زدہ یا مرگی کے مریض کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنا مفید ہے۔

۶- حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کے نتیجہ میں وباء دور ہوتی ہے اور جن جل جاتا ہے۔ اس نقص کو روئی میں فلیتہ بنا کر کورے چراغ میں رکھ کر تلوں کے تیل سے روشن کرے۔ اور آسیب زدہ کو اس کے سامنے بٹھائے۔ نقش یہ ہے:

اللھم احرق الشیاطین

۱	۲	۳	۱۳
۵	۱۱	۱۰	۸
۹	۷	۶	۱۲
۴	۴	۱۵	۱

۷- جو شخص ان آیتوں کو لکھ کر تعویذ بنا کر پہنے گا وہ شیاطین اور جن سے محفوظ رہے گا۔

لَا یَؤُدُہٗ حِفْظُھُمَا وَھُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمِ فَاللہُ خَیْرٌ حَافِظاً وَھُوَ اَرْحَمُ الرّٰحِمِیْنَ وَحِفْظاً مِنْ کُلِّ شَیْطَانٍ مَّارِدٍ ٥

وَحَفِظْنَا هَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَحِفْظاً ذَالِكَ
تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ
اِنَّ بَطْشَ رَبِّکَ لَشَدِيْدٌ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ وَهُوَ
الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ذُوالْعَرْشِ الْمَجِيْدُ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ
هَلْ اَتَاکَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ بَلِ الَّذِيْنَ
كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ وَاللّٰهُ مِنْ وَرَآءِ هِمْ مُحِيْطٌ ○ بَلْ
هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ فِيْ لَوْحٍ مَحْفُوْظٍ ○

۴۱ - خوف و ڈر

بعض عاملین نے لکھا ہے کہ یہ آیتیں خوف و ڈر اور آلام و مصائب کے واسطے نہایت مجرب ہیں۔

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُعَاساً يَغْشٰى
طَآئِفَةً مِّنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ
بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ
الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِيْ
اَنْفُسِهِمْ مَالَا يُبْدُوْنَ لَکَ يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ مِنَ الْاَمْرِ
شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ
الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ
اللّٰهُ مَافِيْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَافِيْ قُلُوْبِكُمْ وَاللّٰهُ

عَلِیۡمٌ بِذَاتِ الصُّدُوۡرِ مُحَمَّدٌ رَّسُوۡلُ اللّٰہِ وَالَّذِیۡنَ مَعَہٗۤ اَشِدَّآءُ عَلَی الۡکُفَّارِ رُحَمَآءُ بَیۡنَھُمۡ تَرٰھُمۡ رُکَّعًا سُجَّدًا یَّبۡتَغُوۡنَ فَضۡلًا مِّنَ اللّٰہِ وَرِضۡوَانًا سِیۡمَاھُمۡ فِیۡ وُجُوۡھِھِمۡ مِّنۡ اَثَرِ السُّجُوۡدِ ذٰلِکَ مَثَلُھُمۡ فِی التَّوۡرٰاتِ وَمَثَلُھُمۡ فِی الۡاِنۡجِیۡلِ کَزَرۡعٍ اَخۡرَجَ شَطۡئَہٗ فَاٰزَرَہٗ فَاسۡتَغۡلَظَ فَاسۡتَوٰی عَلٰی سُوۡقِہٖ یُعۡجِبُ الزُّرَّاعَ لِیَغِیۡظَ بِھِمُ الۡکُفَّارَ وَعَدَ اللّٰہُ الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنۡھُمۡ مَّغۡفِرَۃً وَّاَجۡرًا عَظِیۡمًا۔

۲- اس دعا کا بکثرت پڑھنا خوف و ڈر کے واسطے مفید ہے۔

فَاللّٰہُ خَیۡرٌ حَافِظًا وَّھُوَ اَرۡحَمُ الرّٰحِمِیۡنَ۔

۳- اگر خوف زدہ کے اوپر یہ آیتیں پڑھ کر دم کی جائیں تو اس کا خوف جاتا رہے گا۔

وَاِذَا قَرَاۡتَ الۡقُرۡاٰنَ جَعَلۡنَا بَیۡنَکَ وَبَیۡنَ الَّذِیۡنَ لَا یُؤۡمِنُوۡنَ بِالۡاٰخِرَۃِ حِجَابًا مَّسۡتُوۡرًا وَّجَعَلۡنَا عَلٰی قُلُوۡبِھِمۡ اَکِنَّۃً اَنۡ یَّفۡقَھُوۡہُ وَفِیۡۤ اٰذَانِھِمۡ وَقۡرًا ط وَاِذَا ذَکَرۡتَ رَبَّکَ فِی الۡقُرۡاٰنِ وَحۡدَہٗ وَلَّوۡا عَلٰۤی اَدۡبَارِھِمۡ نُفُوۡرًا۔

۴۲- دشمن سے حفاظت

اگر اس دعا کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کر کے پورے بدن پر پھیر لے

تو دشمن سے محفوظ رہے گا۔ دشمن کے ہجوم سے بھی گزر جائے تو وہ اسے نہیں دیکھ سکیں گے۔

لَاتُدْرِکُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ یُدْرِکُ الْاَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِیْفُ الْخَبِیْرُ.

۲۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ آیت دشمنوں سے حفاظت کے لئے اکسیر ہے۔

حٰمٓ عٓسٓقٓ کَذٰلِکَ یُوْحِیْ اِلَیْکَ وَاِلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِکَ اللّٰهُ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ.

۳۔ شب جمعہ میں بعد نماز عشاء یہ آیت ایک کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر باندھ لے تو دشمن کے ایذاء سے محفوظ رہے گا۔ یہ عمل بہت مفید ہے۔

وَاذْکُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَمِیْثَاقَهُ الَّذِیْ وَاثَقَکُمْ بِهٖ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ بِدَاتِ الصُّدُوْرِ یٰاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کُوْنُوْا قَوّٰمِیْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَایَجْرِمَنَّکُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓی اَلَّا تَعْدِلُوْااِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰی وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِیْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

۴۔ یہ آیت ستائیسویں رمضان شریف کو ایک باریک کاغذ پر لکھ کر انگوٹھی کے نگینہ کے نیچے رکھنے سے ہمیشہ خوش رہے گا اور دشمنوں پر غالب رہے گا۔

وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰی وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُکُمْ وَمَا

النَّصرُ اِلَّا مِنۡ عِندِ اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ عَزِیۡزٌ حَکِیۡمٌ۔

۵۔ یہ آیت لکھ کر اپنے پاس رکھے اور اسے برابر پڑھتا رہے تو جس ظالم و جابر کے پاس جائے اس کے ظلم سے محفوظ رہے گا۔

لَایُحِبُّ اللّٰہُ الۡجَھۡرَ بِالسُّوۡٓءِ مِنَ الۡقَوۡلِ اِلَّا مَنۡ ظُلِمَ وَکَانَ اللّٰہُ سَمِیۡعاً عَلِیۡماً سے وَکَانَ اللّٰہُ عَلِیۡماً حَکِیۡماً تک (پ ۶، ع ۱)

۶۔ ان آیتوں کو شب جمعہ میں بعد نماز عشاء لکھ کر باندھ لے تو دشمنوں سے محفوظ رہے گا۔

اَلَّذِیۡنَ یُنۡفِقُوۡنَ فِی السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالۡکَاظِمِیۡنَ الۡغَیۡظَ وَالۡعَافِیۡنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰہُ یُحِبُّ الۡمُحۡسِنِیۡنَ وَالَّذِیۡنَ اِذَا فَعَلُوۡا فَاحِشَۃً اَوۡ ظَلَمُوۡا اَنۡفُسَھُمۡ ذَکَرُوۡا اللّٰہَ فَاسۡتَغۡفَرُوۡا لِذُنُوۡبِھِمۡ وَمَنۡ یَّغۡفِرُ الذُّنُوۡبَ اِلَّا اللّٰہُ وَلَمۡ یُصِرُّوۡا عَلٰی مَا فَعَلُوۡا وَھُمۡ یَعۡلَمُوۡنَ اُولٰٓئِکَ جَزَآءُ ھُمۡ مَّغۡفِرَۃٌ مِنۡ رَّبِّھِمۡ وَجَنّٰتٌ تَجۡرِیۡ مِنۡ تَحۡتِھَا الۡاَنۡھَارُ خَالِدِیۡنَ فِیۡھَا وَنِعۡمَ اَجۡرُ الۡعٰمِلِیۡنَ۔

۷۔ اگر روزانہ صبح سویرے سورۂ طٰہٰ پڑھ لیا کرے تو دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا۔ نہایت مجرب ہے۔

٨- سورہ نازعات دشمن کے مقابل میں پڑھنے سے اس کے ضرر سے محفوظ رہے گا۔

٩- کسی تنہا جگہ میں بیٹھ کر سورہ کوثر تین سو مرتبہ دشمن پر غلبہ حاصل کرنے کی نیت سے پڑھے تو خدا تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ اور دشمنوں پر غلبہ رہے گا۔ بہت کارآمد عمل ہے۔

١٠- یہ آیتیں دشمن پر فتح یابی کے لئے سنیچر کے دن کسی ہتھیار پر کندہ کرائے جس کے مقابلہ میں یہ ہتھیار لے کر جائے گا انشاء اللہ فتح حاصل ہوگی۔

لَنْ یَّضُرُّوْاکُمْ اِلَّا اَذٰی ط وَاِنْ یُّقَاتِلُوْاکُمْ یُوَلُّوْکُمُ
الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا یُنْصَرُوْنَ ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ اَیْنَ
مَاثُقِفُوْا اِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللّٰهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُ وْا
بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَضُرِبَتْ عَلَیْمُ الْمَسْکَنَةُ ذٰلِکَ
بِاَنَّهُمْ کَانُوْا یَکْفُرُوْنَ بِاٰیَاتِ اللّٰهِ وَیَقْتُلُوْنَ الْاَنْبِیَآءَ
بِغَیْرِ حَقٍّ ط ذٰلِکَ بِمَاعَصَوْاوَّ کَانُوْا یَعْتَدُوْنَ.

٤٣- نظر بد

دو تین ہلدی کی گرہ پر تین تین مرتبہ یہ کلمہ پڑھ کر پھونکے اور پھر آگ میں ڈال کر اس کی دھونی اس شخص کو دے جسے نظر بد ہوگئی ہو انشاء اللہ اچھا ہو جائے گا۔

الْاِسْلَامُ حَقٌّ وَالْکُفْرُ بَاطِلٌ

۲۔ شب جمعہ میں نماز عشاء کے بعد یہ آیت لکھ کر تعویذ بنا کر باندھنے سے نظر بد سے محفوظ رہے گا۔

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِیْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ط اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ط وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ○

۳۔ جو شخص اس آیت کو زعفران سے لکھ کر بارش کے پانی سے دھو کر اس پانی سے غسل کرے اس سے انشاء اللہ نظر بد دور ہو گی آیت یہ ہے:

يَا بَنِیْ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَّكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا ج اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَةَ اللّٰهِ الَّتِیْ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فِی الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَّوْمَ الْقِيَامَةِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيَاتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّیَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْاِثْمَ وَالْبَغْیَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَاَنْ تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهٖ سُلْطَانًا وَّاَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ۔

۴۔ یہ آیت لکھ کر دھو کر پینا اور تعویذ بنا کر پہننا نظر بند کیلئے نہایت مفید ہے۔

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوْا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ.

۵- اس دعاء کو پانی پر دم کر کے پینا اور تعویذ بنا کر پہننا دفع نظر بد کے لئے نہایت مجرب ہے۔

اَللّٰهُمَّ ذَالسُّلْطَانِ الْعَظِيْمِ ذَالْمَنِّ الرَّحِيْمِ ذَالْوَجْهِ الْكَرِيْمِ وَلِيَّ الْكَلِمَاتِ وَالدَّعْوَاتِ الْمُسْتَجَابَاتِ عَافَ فَلان من اَنْفُسِ الْجِنِّ وَاَعْيُنِ الْاِنْسِ.

فلاں کی جگہ اس شخص کا نام لکھے جسے نظر بد ہوگئی ہو۔

۴۴- موذی جانور سے حفاظت

جو شخص صبح و شام اس آیت کو تین تین مرتبہ پڑھ لے گا تو وہ حشرات الارض سے محفوظ رہے گا۔

وَمَالَنَا اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْهَدَانَا سُبُلَنَا ط وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَا اٰذَيْتُمُوْنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ.

۲- جو شخص طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب کے بعد اس دعا کو تین مرتبہ پڑھ کر اپنے پورے بدن پر پھونک لے تو وہ تمام حشرات الارض اور چور سے محفوظ رہے گا۔

عَقَدْتُ لِسَانَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَيَدَ السَّارِقِ بِقَوْلِ

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

۳- اگر کسی موذی جانور سے اندیشہ ہو تو یہ آیت پڑھ کر اس کی طرف پھونک دے انشاء اللہ اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں پہونچے گی۔

اَللّٰهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللّٰهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا.

۴- اس نقش کو چار کاغذ پر لکھ کر مکان کے چاروں کونوں میں لٹکا دیا جائے تو سانپ وغیرہ مکان میں داخل نہیں ہو سکے گا اور جو سانپ مکان میں پہلے سے موجود ہو نکل جائے گا نقش یہ ہے۔

ااءاااا۸ا۷اح۵۵۷اا۵ا اووےوواہ رواامااخااح ط ۸۵۵

۵- جو شخص صبح و شام اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا وہ سانپ اور بچھو کے ضرر سے محفوظ رہے گا۔

سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ اِنَّهٗ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ.

۶- اس آیت کو زعفران و گلاب سے لکھ کر باندھ لے تو موذی جانور سے محفوظ رہے گا۔

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِى اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهٗ حَثِيْثاً وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ مُسَخَّرَاتٍ بِاَمْرِهٖ اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ

رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَّخُفْيَةً ط اِنَّهٗ
لَايُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ وَلَا تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ بَعْدَ
اِصْلَاحِهَا وَادْعُوْهُ خَوْفاً وَّ طَمَعاً اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ
قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ.

۷- محرم کی پہلی تاریخ کو یہ آیت لکھ کر دھو کر پانی سارے گھر میں چھڑک یا جائے تو وہ گھر سانپ بچھو اور تمام موذی جانوروں سے محفوظ رہے گا۔

اَفَاَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَّاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا بَيَاتاً وَّهُمْ
نَآئِمُوْنَ اَوَ اَمِنَ اَهْلُ الْقُرٰى اَنْ يَاْتِيَهُمْ بَاْسُنَا ضُحًى
وَّهُمْ يَلْبَسُوْنَ اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ فَلَا يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلَّا
الْقَوْمُ الْخٰسِرُوْنَ.

۸- اگر سورۂ فرقان تین مرتبہ لکھ کر باندھ لے تو موذی جانور سے حفاظت رہے گی۔

۴۵- سانپ کا ڈسنا

جھاڑنے والا اس شخص سے جسے سانپ یا بچھو نے کاٹ لیا ہے پوچھے کہ درد کس جگہ ہے جہاں وہ بتائے اس جگہ پر ایک چھری رکھ کر چند مرتبہ یہ دعا پڑھے پھر اس چھری سے بدن کو سہلاتا ہوا چھری نیچے کی جانب لائے اور اس دوران بار بار اس دعاء کو پڑھتا جائے۔ یہاں تک کہ درد اوپر سے اتر کر نیچے کو آجائے جب درد بالکل نیچے کو آجائے تو اسے منہ سے چوس کر تھوک

دے۔ انشاء اللہ زہر اتر جائے گا مجرب ہے دعا یہ ہے۔

سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ وَعَلٰى مُحَمَّدٍ فِى
الْمُرْسَلِيْنَ مِنْ هَامِلَاتِ السَّمِّ اَجْمَعِيْنَ كَذٰلِكَ
يَجْزِىْ عِبَادَهُ الْمُحْسِنِيْنَ اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ
مُّسْتَقِيْمٍ نُوْحٌ نُوْحٌ نُوْحٌ قَالَ لَكُمْ نُوْحٌ مَنْ ذَكَرَنِىْ
فَلَا تَلْدَغُوْهُ اِنَّ رَبِّىْ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٍ ۝ وَصَلَّى اللّٰهُ
عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلَّمَ.

۲- جسے سانپ کے ڈسے ہوئے کو یہ عمل کاغذ پر لکھ کر دھو کر پلانے سے انشاء اللہ سانپ کا زہر اس سے زائل ہو جائے گا۔ نہایت مجرب ہے۔

سارا سارا الیٰ سارا امالی یرن یرن الیٰ بامال
واصال باطوطو کالعومار اساب یافارس اردوباب
ھا کان ما ابین لھاتارا آنار کاس متمرنا کاطن صلو
بیرص ضاروب اثاوین ودی.

۳- جسے سانپ نے کاٹ لیا ہو اگر وہ فوراً یہ دعا پڑھ لے تو انشاء اللہ سانپ کا زہر اثر نہیں کرے گا۔

نُوْدِىَ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا
وَسُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

۴- اگر کسی زہریلے جانور مثلاً سانپ وغیرہ نے کاٹ لیا ہو تو جس جگہ پر کاٹا ہو اس کے ارد گرد گھماتے ہوئے سات مرتبہ یہ آیت ایک ہی سانس میں

پڑھ کر دم کرنے سے انشاء اللہ اس کا زہر ختم ہو جائے گا۔

وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ.

۵- جسے سانپ نے ڈس لیا ہوا سے **اَلْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ** لکھ کر روغن زیتون میں ملا کر کھلانے سے وہ فوراً اچھا ہو جائے گا۔

٦- جس شخص کو سانپ نے ڈس لیا ہو یا کتے نے کاٹ لیا ہو یا اس نے خود زہر پی لیا ہو تو اسے کھڑا کر کے اس کے دونوں پیر کے چہار جانب لوہے کی چھرے سے گول نشان کھینچے، نشان کی ابتداء داہنے پیر کے انگوٹھے سے کرے اور چہار جانب پھیر کر انگوٹھے پر آ کر روک دے اس طرح پر اس کے چہار جانب نشان کھینچ جانے کے بعد دونوں پیروں کے درمیان ایک سیدھا نشان کھینچے نشان مکمل کرنے کے بعد داہنے پیر کے تلوے کے نیچے سے اور بائیں پیر کی پنڈلی کی جانب سے مٹی اٹھا کر ایک پاک برتن میں ڈال دے اور اس میں اوپر سے پانی ڈالے پھر چھری لے کر اسے دوسرے برتن کے بیچ میں اس طرح کھڑا کرے کہ اس کی نوک اوپر کی جانب ہو، پھر اس پانی کو جو پہلے برتن میں مٹی کے اوپر ڈالا تھا اس چھری کے اوپر بہائے جو دوسرے برتن میں کھڑی کر رکھی ہے اور اس دوران میں یہ منتر پڑھتا رہے۔

اس منتر کے ختم ہونے کے ساتھ پانی کا بہانا بھی روک دے پھر اس چھری کے دستہ کو اوپر اور نوک کو نیچے کر کے اسی برتن میں کھڑا کرے اور بچے ہوئے پانی کو پھر چھری پر بہائے اور اس منتر کو پڑھتا رہے پھر منتر کے ساتھ ساتھ پانی کا ڈالنا بھی روک دے۔ پھر تیسری مرتبہ اسی برتن میں اسی

چھری کی نوک کو اوپر اور دستہ کو نیچے کرے اور منتر پڑھتا ہوا باقی ماندہ پانی کو اس چھری کے اوپر بہا ڈالے پھر اس جمع شدہ پانی کو سانپ کے ڈسے ہوئے شخص یا کتے کے کاٹے ہوئے یا زہر کے پیے ہوئے کو پلائے انشاء اللہ اس عمل کی برکت سے سارا زہر جاتا رہے گا نہایت مجرب عمل ہے تا آنکہ اس پانی کو اگر کسی ایسے شخص کو پلائے جو اس کی اطلاع لے کر آیا ہو کہ فلاں کو سانپ نے ڈس لیا ہے تو اس کو پلانے سے ڈسے ہوئے شخص کا زہر جاتا رہے گا۔ اور وہ شفایاب ہوگا عمل یہ ہے۔

سارا سارافی ساراعاتی نور نور نور اناوارمیافاہ
یاطواکا طوابرملس اوزانا اوضاینما کامایوقا
بانیاساتیا کاطوط اصساوتاابریلس توتی تناوس۔



پیروں کے درمیان لکیر کھینچنے کا نقشہ سہولت کے لئے دیا جارہا ہے۔

انگوٹھے سے نشان کھینچنا شروع کرے اور چہار جانب پھر اکر وہیں لاکر روک دے۔ اس طرح پر دونوں پیروں کے درمیان گول دائرہ بن گیا۔ پھر دونوں پیروں کے درمیان ایک سیدھا نشان کھینچے۔

۴۶- بچھو کا ڈنک مارنا

جس شخص کو بچھو نے ڈنک مارا۔ اگر وہ فوراً یہ دعا پڑھ لے تو زہر اثر نہیں کرے گا۔

نُوْدِیَ اَنْ بُوْرِکَ مَنْ فِی النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا
وَسُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ.

۲- اگر کسی کو بچھو نے کاٹ لیا ہو تو یہ عمل پڑھ کر جھاڑنا مفید ہے۔ انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا عمل یہ ہے۔

شُجَّةٌ قَرِیْنَةٌ مِلْحَةٌ بَحْرٍ قَفْطعا.

۳- جو شخص اس عمل کو پڑھ لے گا اسے بچھو ڈنک نہیں مارے گا اگرچہ بچھو کو پکڑ بھی لے اور اگر اس نے ڈنک مار دیا تو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اور نہ تکلیف ہوگی۔ نہایت مجرب عمل ہے۔

بسم الله وبالله وبسم جبرئیل ومکائیل کازم کازم
ریزازم فتیزالی مرن الی مرن یشتامر ایشتامر
اهو ذاهو ذاهی لمطا انا الراقی والله الشافی.

۴- اگر کسی کو بچھو نے ڈنک مار لیا ہو تو سورۂ انشقاق پڑھ کر دم کرنے سے آرام ہو جائے گا۔

۴۷- کتے کا کاٹنا

اگر کسی کو کتے نے کاٹ لیا ہو تو یہ عمل کسی نئے برتن پر لکھ کر روغن زیتون

سے دھو کر اس شخص کو پلانے سے انشاء اللہ کتے کا زہر ختم ہو جائیگا۔ مجرب ہے۔

اب ج ا ع ہ ہ د باب اللّٰہ"

۲۔ اگر کسی کے اوپر کتا حملہ کرے تو گیارہ مرتبہ یہ آیت پڑھ لے انشاء اللہ اس کے شر سے محفوظ رہے گا۔

"وکلبھم باسِطٌ ذِرَاعَیۡہِ بِالُوَسِیۡدِ.

۳۔ جس شخص کو کتے نے کاٹ لیا ہو اسے العلیمُ الُحَکِیُمُ لکھ کر دھو کر پلانے سے انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔

۴۸ - دردِ سر

اگر کسی کے سر میں درد ہو تو یہ حروف لکھ کر سر میں باندھا جائے انشاء اللہ درد جاتا رہے گا۔ مجرب ترین عمل ہے۔

"د م ہ م ل ہ"

۲۔ جس کے سر میں درد ہو یہ آیت لکھ کر اس کے سر میں باندھا جائے انشاء اللہ درد ختم ہو جائے گا۔

بسم اللّٰہ الرحمن الرحیم ذٰلک تَخۡفِیۡفٌ مِنۡ رَّبِّکُمۡ وَرَحۡمَۃٌ بسم اللّٰہ الرحمن الرحیم ط یُرِیۡدُ اللّٰہ اَنۡ یُخَفِّفَ عَنۡکُمۡ وَخُلِقَ الۡاِنۡسَانُ ضَعِیۡفاً. بسم اللّٰہ الرحمن الرحیم وَاِذَا سَأَلَکَ عِبَادِیۡ عَنِّیۡ فَاِنِّیۡ قَرِیۡبٌ اُجِیۡبُ دَعۡوَۃَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ بسم اللّٰہ

الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَ الیٰ رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاکِناً بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهٗ مَا سَکَنَ فِیْ اللَّیْلِ وَالنِّهَارِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ.

۳- اگر کسی کے سر میں درد ہو تو ان حروف کو کسی پاک لکڑی یا جگہ پر لکھ کر پہلے حرف کو کسی میخ سے دبایا جائے اور دباتے وقت یہ دعا پڑھتا رہے۔

اَلَمْ تَرَ الیٰ رَبِّکَ کَیْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاکِناً وَلَهٗ مَا سَکَنَ فِیْ اللَّیْلِ وَالنِّهَارِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ.

اگر درد ختم ہو جائے تو یہ عمل چھوڑ دیا جائے اور اگر پہلے حرف پر درد ختم نہ ہو تو اسی طرح دوسرے حرف پر کیا جائے یہاں تک کہ درد ختم ہو جائے اس عمل کے دوران جس کے سر میں درد ہے وہ اپنے ہاتھ سے سر کو پکڑے رہے انشاءاللہ انہیں حروف میں سے کسی پر آکر درد ختم ہو جائے گا حروف یہ ہیں۔

"ا ح ا ک ک ح ع ح ا م ح"

جس کے آدھے سر میں درد ہو اس پر گیارہ مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دم کیا جائے انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔ بہت مجرب ہے۔

"لَایُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا یُنْزِفُوْنَ"

سے اخیر سورت تک۔ (سورہ واقعہ)

۴- بعد نماز عصر سورۂ تکاثر پڑھ کر دم کرنا دردِ سر کے واسطے مفید ہے۔

۵- دردِ سر والے پر سورۂ والعصر تین مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔

۶۔ سورۂ کوثر سات بار پڑھ کر دم کرنے سے دردسر جاتا رہے گا۔

۷۔ دردسر کے لئے یہ آیت پڑھ کر دم کرنا مفید ہے۔

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنٰهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ.

۸۔ جس کے آدھے سر میں درد ہو اس کے لئے یہ آیت زعفران سے کپڑے پر لکھ کر باندھنے سے درد جاتا رہے گا۔

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْماً.

۹۔ اگر کسی کے آدھے سر میں درد ہو تو اول و آخر تین تین بار درود شریف اور گیارہ مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دم کرنے سے درد ختم ہو جائے گا۔

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْشَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِناً

۱۰۔ یہ آیت لکھ کر سر میں باندھنا آدھے سر کے درد کیلئے نہایت مفید ہے۔

كٓهٰيٰعٓصٓ ذِكْرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهٗ زَكَرِيَّا اِذْ نَادٰى
رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا قَالَ رَبِّ اِنِّيْ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّيْ وَاشْتَعَلَ
الرَّأْسُ شَيْباً وَّلَمْ اَكُنْ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيّاً.

۱۱۔ آدھے سر کے درد پر یہ آیت پڑھ کر دم کریں انشااللہ فائدہ ہوگا۔

قُلْ مَنْ رَّبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ
مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَآءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَّلَا ضَرًّا.

۴۹- دردابرو

اگر کسی کے ابرو میں درد ہو تو یہ آیت سات بار پڑھ کر دم کیجائے۔

وَلَوْ اَنَّ مَافِی الْاَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقْلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهٗ مِنْ بَعْدِهٖ سَبْعَةُ اَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ اِنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ.

۲- دردابرو کے واسطے یہ عمل سات بار پڑھ کر دم کرنا مفید ہے۔

كهيعص كفايتنا حمعسق حمايتنا

۵۰- ضعف دماغ

دماغ کی کمزوری کے واسطے اس آیت کا روزانہ بعد نماز فجر دس مرتبہ پڑھ کر ہتھیلی پر دم کر کے سر پر پھیرنا مفید ہے۔

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا اٰتَيْنَا حُكْمًا وَّعِلْمًا وَّ سَخَّرْنَا مَعَ دَاوٗدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِيْنَ.

۲- جس کا دماغ کمزور ہو وہ ہر فرض نماز کے بعد گیارہ مرتبہ اسم باری تعالیٰ ''یا قوی'' پڑھ کر ہتھیلی پر دم کرے اور سر پر ہاتھ پھیرا کرے۔

۳- اگر کسی کا دماغ کمزور ہو تو ان آیات کو چینی کے پلیٹ پر لکھ کر اسے دھو کر یہ پانی اسے پلایا جائے۔

عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ فَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ

مَجِيْدٌ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظ۔

۴- یہ آیت سات مرتبہ پڑھ کر دم کی جائے یا لکھ کر سر میں باندھا جائے تو انشاءاللہ دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔

سَنُقْرِئُکَ فَلَا تَنْسٰی اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰہُ۔

۵- ضعف دماغ سے متعلقہ امراض کے لئے یہ آیت زعفران سے لکھ کر سر میں باندھی جائے بہت مفید ہے۔

اِقْرَاْ وَرَبُّکَ الْاَکْرَمُ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ
الْاِنْسَانَ مَالَمْ یَعْلَمْ۔

۵۱-نسیان

ہر فرض نماز کے بعد "الرحمٰن" سو مرتبہ پڑھنے سے نسیان دور ہو جاتا ہے۔

۲- نسیان دور کرنے کے لیے ہر فرض نماز کے بعد تیرہ مرتبہ "رَبِّ زِدْنِیْ عِلْماً" اور گیارہ مرتبہ یہ آیت پڑھی جائے۔

رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ وَیَسِّرْ لِیْ اَمْرِیْ وَاحْلُلْ
عُقْدَةٌ مِنْ لِسَانِیْ یَفْقَهُوْا قَوْلِیْ۔

۳- سورہ انشراح چینی کے پلیٹ پر عرق گلاب و زعفران سے لکھ کر اکتالیس روز تک پلانا ازالۂ نسیان کے لئے بے حد مجرب ہے۔

۴- نسیان کے لئے یہ آیت چینی ملے ہوئے لیموں کے پانی سے لکھ کر دھو کر پلانا مفید ہے۔

اِنَّا نَحْنُ نُحْیِ الْمَوْتیٰ وَنَکْتُبُ مَاقَدَّمُوْا وَاٰثَارَھُمْ وَکُلَّ شَیْئٍ اَحْصَیْنٰہُ فِیْ اِمَامٍ مُّبِیْن.

۵- دفع نسیان کے لیے یہ آیت بعد نماز عشاء سوتے وقت گیارہ مرتبہ پڑھی جائے انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔

سُبْحَانَکَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَاعَلَّمْتَنَا اِنَّکَ اَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُ.

۵۲- بے خوابی

بے خوابی دور کرنے کیلیے سوتے وقت سات مرتبہ یہ آیت پڑھی جائے۔

اَفَاَمِنَ اَھْلُ الْقُرٰی اَنْ یَّاْتِیَھُمْ بَاْسُنَا بَیَاتاً وَّھُمْ نَائِمُوْنَ اَوَاَمِنَ اَھْلُ الْقُرٰی اَنْ یَّاْتِیَھُمْ بَاْسُنَا ضُحیً وَّھُمْ یَلْعَبُوْنَ.

۲- یَا حَیُّ یَا قَیُّوْمُ کا بکثرت پڑھنا بے خوابی دور کرنے کے لئے مفید ہے۔

۳- سوتے وقت گیارہ مرتبہ یہ دعا پڑھ لینے سے نیند خوب آئے گی۔

اِنَّ اللّٰہَ وَمَلٰٓئِکَتَہٗ یُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ ط یَا اَیُّھَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَیْہِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِیْماً.

۵۳- زیادہ نیند آنا

اگر کسی کو نیند بہت زیادہ آتی ہو تو سوتے وقت یہ دعا پڑھ لے

انشاء اللہ نیند کم ہو جائے گی۔

اِنَّ رَبَّکُمُ اللّٰہُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ
سِتَّۃِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ یُغْشِی الَّیْلَ
النَّھَارَ یَطْلُبُہٗ حَثِیْثًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُوْمَ
مُسَخَّراتٍ بِاَمْرِہٖ اَلَا لَہُ الْخُقُ وَالْاَمْرُ تَبَارَکَ اللّٰہُ
رَبُّ الْعٰلَمِیْنَ اُدْعُوْا رَبَّکُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْیَۃً اِنَّہٗ لَا
یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ وَلَا تُفْسِدُوْ فِی الْاَرْضِ بَعْدَ
اِصْلَاحِھَا وَادْعُوْہُ خَوْفًا وَطَمَعًا اِنَّ رَحْمَۃَ اللّٰہِ
قَرِیْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِیْنَ.

۲- سوتے وقت اس دعا کا پڑھنا زیادتی نیند کو دور کرنے کیلئے مفید ہے۔

اَفَحَسِبَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَنْ یَّتَّخِذُوْا عِبَادِیْ سے
آخری سورت تک۔ (سورۂ کہف آخری رکوع)

۵۴- مرگی

مرگی کے مریض کے سر میں یہ آیت تین بار لکھ کر باندھنا مفید ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَتُوْبُوْا
فَلَھُمْ عَذَابُ جَھَنَّمَ وَلَھُمْ عَذَابُ الْحَرِیْقِ.

۲- جس کو مرگی کا مرض ہو اس کے کان میں یہ دعا پڑھ کر پھونکی جائے انشاء اللہ مرض دور ہو جائے گا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم المص طسم کھیعص یٰس
والْقُرْاٰنِ الْحَکِیْمِ حمعص نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُوْنَ.

۳۔ سورہ والشمس مرگی کے مریض کے کان میں پڑھ کر دم کرنا مفید ہے۔

۴۔ سورہ تحریم پوری پڑھ کر پانی پر دم کر کے مرگی کے مریض کو پلائیں۔

۵۔ جو شخص سورۂ سجدہ لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاء اللہ اسے مرگی کا دورہ نہیں پڑے گا۔

۶۔ سورۂ فاتحہ، آیۃ الکرسی اور سورۂ جن کی شروع کی پانچ آیتیں پڑھ کر مرگی کے مریض پر دم کرنے اور پانی پر پڑھ کر اس کے منہ پر چھینٹا مارنے سے انشاء اللہ دورہ ختم ہو جائے گا۔

۵۵۔ سرسام

سرسام کے مریض کے سر میں یہ آیت لکھ کر باندھی جائے اور بارش کے پانی پر گیارہ مرتبہ پڑھ کر پلائی جائے۔ تو انشاء اللہ مرض جارتا رہے گا۔

قَالُوْا حَرِّقُوْہُ وَانْصُرُوْا اٰلِھَتَکُمْ اِنْ کُنْتُمْ فَاعِلِیْنَ
قُلْنَا یَا نَارُ کُوْنِیْ بَرْدًا وَّسَلَامًا.

۲۔ سورۂ عنکبوت روغن بلسان پر گیارہ بار دم کر کے سر میں لگانے سے انشاء اللہ سرسام کا مرض ختم ہو جائے گا۔ مجرب ہے۔

۳۔ اسم باری تعالیٰ یَامُقْسِطُ تین سو بار پڑھ کر سرسام کے مریض کو پلایا جائے انشاء اللہ افاقہ ہوگا۔

۵۶-جنون

سات کنوؤں کے پانی پر یہ آیت گیارہ مرتبہ پڑھ کر دم کریں اور مریض کو پلائیں۔ انشاء اللہ شفایاب ہوگا بہت مجرب ہے

سورۂ جن ابتداء سورت سے رَشَدا تک۔

۲- سورۂ معوذتین بھی حسب ترکیب سابق پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے۔

۵۷-ہذیان

مریض کے سر میں یہ آیت لکھ کر باندھی جائے انشاء اللہ اس کا ہذیان دور ہو جائے گا۔

لَایُؤَاخِذُکُمُ اللّٰہُ بِاللَّغْوِ فِیْٓ اَیْمَانِکُمْ.

۲- ازالۂ ہذیان کے لیے بعد نماز فجر مریض کے سر پر داہنا ہاتھ پھیرتے ہوئے سات بار یہ دعا پڑھی جائے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الَّذِیْ لَا اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمِ

۳- ہذیان کے مریض پر اسم باری تعالیٰ یَا مُقِیْتُ پانچ سو پچاس مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے۔

۵۸-مالیخولیا

جسے وہم کی بیماری ہو اس پر ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ معوذتین

اور گیارہ مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دم کی جائے۔

مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِيْنَ.

۲۔ مالی خولیا کے مریض کے سر پر یہ آیت تین سو تیرہ مرتبہ روغن چنبیلی پر دم کر کے مالش کی جائے۔

فَانْظُرْ اِلٰى اٰثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط اِنَّ ذٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتٰى وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

۳۔ سورۂ قٓ لکھ کر پانی سے دھو کر پلانا دفع مالیخولیا کے لئے مفید ہے۔

۵۹۔ آشوب چشم

نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان سورۂ ملک پڑھ کر دم کرنا آشوب چشم کے واسطے مفید ہے۔

۲۔ آشوب چشم پر پندرہ مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دم کی جائے انشاء اللہ اچھا ہو جائے گا۔

رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

۳۔ اگر کسی کی آنکھیں دکھتی ہوں تو روزآنہ یہ آیتیں تین بار پڑھ کر دم کی جائیں انشاء اللہ آنکھوں کا دکھنا بند ہو جائے گا۔

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط مَثَلُ نُوْرِهٖ كَمِشْكٰوةٍ فِيْهَا

مِصْبَاحٌ ط سے وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. تک

(پ ۱۸، رکوع ۱۱)

۴- سورۂ حم سجدہ لکھ کر بارش کے پانی سے دھو کر اس پانی سے آنکھوں کا دھونا آشوب چشم کے لئے مفید ہے۔

۵- اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف اور گیارہ مرتبہ سورۂ کوثر پڑھ کر دم کرنے سے انشاء اللہ آشوب چشم سے نجات ملے گی۔

۶۰- ناخونہ

تین مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھ کر آنکھوں پر دم کیا جائے انشاء اللہ ناخونہ ختم ہو جائے گا۔

۲- یہ آیت لکھ کر اپنے پاس رکھنے سے ناخونہ سے محفوظ رہے گا۔

وَمَا لَنَا اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَآ اٰذَيْتُمُوْنَ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ.

۳- سورہ حم سجدہ لکھ کر بارش کے پانی سے دھویا جائے اور اس پانی سے سرمہ پیس کر آنکھوں میں لگانے سے انشاء اللہ سفیدی ختم ہو جائیگی۔ مجرب ہے۔

۶۱- موتیابند

ہر فرض نماز کے بعد یہ آیت تین مرتبہ پڑھ کر انگلی پر پھونک مار کر

آنکھوں پر پھیرا جائے۔ موتیابند کے واسطے مفید ہے۔

فَکَشَفْنَا عَنْکَ غِطَآئَکَ فَبَصَرُکَ الْیَوْمَ حَدِیْدٌ

۲- سورۂ یٰسین پڑھ کر سرمہ پر دم کر کے آنکھوں پر لگایا جائے تو انشاء اللہ موتیابند جاتا رہے گا۔

۶۲- زخم چشم

سورۂ ھُمَزہ پڑھ کر آنکھوں کے زخم پر دم کیا جائے انشاء اللہ شفا ہوگا۔

۲- جس کی آنکھ میں زخم ہو یا چوٹ لگ گئی ہو اس کے گیارہ مرتبہ ”النافع الباری“ پڑھ کر دم کیا جائے۔

۶۳- روہا

اگر کسی کی آنکھ میں روہا ہو تو عروج ماہ میں ہفتہ کے دن یہ حروف مقطعات لکھ کر اسے دھو کر وہ پانی پلایا جائے۔

الم المص الم کھیعص حم عسق طه طسم حم
یٰس ص ق ن.

۲- جس کی آنکھوں میں روہا ہو اس کی آنکھ میں سات مرتبہ یہ دعا پڑھ کر دم کی جائے انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔

اَللّٰھُمَّ نَوِّرْ بَصَرِیْ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ وَاَرِنِیْ فِی الْعَدُوِّ وَاثَارِیْ وَانْصُرْنِیْ عَلٰی مَاظَلَمَنِیْ.

۶۴۔ رتوندا

اگر کسی کو رتوندا ہو گیا ہو تو سورہ قیامہ سرمہ پر دم کر کے آنکھوں میں لگائیں انشاء اللہ مرض دور ہو جائے گا۔

۲۔ اسم باری تعالیٰ یاشکور دس مرتبہ رتوندی کے مریض کی آنکھوں پر پڑھ کر دم کیا جائے۔

۳۔ اگر کسی کو اس قسم کی رتوندا ہو کہ دن میں دکھائی نہ دیتا ہو تو ہر فرض نماز کے بعد یاقوی ایک سو ایک بار پڑھ کر انگلیوں پر پھونک کر آنکھوں پر پھیری جائیں۔

۴۔ دن کے رتوندے کے لئے صبح و شام سو سو بار یہ آیت پڑھنا نہایت مفید ہے۔

وَاللّٰہُ غَالِبٌ عَلٰی اَمْرِہٖ وَلٰکِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ.

۶۵۔ ضعف بصر

ہر فرض نماز کے بعد اول و آخر تین تین مرتبہ درود شریف اور گیارہ بار یانور پڑھ کر انگشت شہادت پر پھونک کر آنکھوں پر پھیر لیا جائے۔ ضعف بصر کے لئے مفید ہے۔

۲۔ جس کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو گئی ہو وہ نماز فجر کے بعد یہ آیت پانچ مرتبہ پڑھ کر انگلیوں پر پھونک کر آنکھوں پر پھیر لے انشاء اللہ بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔

اَللّٰہُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط مَثَلُ نُوْرِہٖ کَمِشْکٰوۃٍ
فِیْھَا مِصْبَاحٌ اَلْمِصْبَاحُ فِیْ الزُّجَاجَةِ اَلزُّجَاجَةُ کَاَنَّھَا
کَوْکَبٌ دُرِّیٌّ یُّوْقَدُ مِنْ شَجَرَۃٍ مُّبَارَکَةٍ زَیْتُوْنَةٍ لَّا
شَرْقِیَّةٍ وَّلَا غَرْبِیَّةٍ یَّکَادُ زَیْتُھَا یُضِیْٓءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْہُ
نَارٌ نُوْرٌ عَلٰی نُوْرٍ ط یَھْدِیْ اللّٰہُ لِنُوْرِہٖ مَنْ یَّشَآءُ
وَیَضْرِبُ اللّٰہُ الْاَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰہُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ.

۳۔ ضعف بصر کے واسطے اس دعا کا پڑھ کر دم کرنا مفید ہے۔

یَا سَمِیْعُ یَا مُجِیْبُ یَا سَمِیْعَ الدُّعَآءِ یَا لَطِیْفُ لِمَا
یَشَآءُ اَحْفِظْ عَلٰی بَصَرِیْ.

۶۶- درد کان

اگر کسی کے کان میں درد ہو تو یہ آیت سرسوں کے تیل پر پڑھ کر کان میں ٹپکایا جائے درد جاتا رہے گا۔

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ کُلُّ اُولٰٓئِکَ کَانَ عَنْہُ مَسْئُوْلًا.

۲۔ جس کے کان میں درد ہو اس کے اسم باری تعالیٰ یا سمیع اکیس مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے، انشاء اللہ شفا ہوگا۔

۳۔ کسی کے کان میں درد ہو تو یہ آیت پڑھ کر دم کیا جائے انشاء اللہ درد جاتا رہے گا مجرب ہے۔

کَاَنْ لَّمْ یَسْمَعْھَا کَاَنَّ فِیْ اُذُنَیْہِ وَقْرًا فَبَشِّرْہُ
بِعَذَابٍ اَلِیْمٍ.

۴۔ اگر کسی کے کان میں درد ہو تو یہ آیت قلعی شدہ تانبے کی طشتری پر عرق گندنا سے لکھ کر شہد سے دھو کر وہ شہد آگ پر پکایا جائے اور پھر اس کے کان میں ڈالا جائے۔ انشاء اللہ درد جاتا رہے گا۔ نہایت مجرب ہے۔

قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمآءِ وَالْاَرْضِ اَمَّنْ يَّمْلِكُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يُّخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُّدَبِّرُ الْاَمْرَ فَسَيَقُوْلُوْنَ اللّٰهَ فَقُلْ اَفَلا تَتَّقُوْنَ.

۵۔ عمر بن ثابت سے مروی ہے کہ ایک شخص کے کان کے اندرونی حصہ میں مچھر گھس گیا جس کی تکلیف سے وہ شخص دن رات پریشان رہنے لگا۔ اور اس کا سکون جاتا رہا۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ایک صحابی نے ارشاد فرمایا کہ تین مرتبہ یہ دعا سرسوں کے تیل پر پڑھ کر کان میں ڈالو۔ انشاء اللہ تمام تکلیف دور ہو جائے گی۔ وہ دعا یہ ہے۔

يَا حَلِيْمُ يَا عَلِيْمُ يَا عَلِيُّ يَا عَظِيْمُ اَخرِجَ الْبُعُوْضَةَ مِنْ اُذُنٍ

٦٧- کان کا بہنا

اگر کسی کا کان بہتا ہو تو سورۂ اعلیٰ تین بار پڑھ کر کان میں دم کیا جائے۔

۲۔ جس کا کان بہتا ہو اس کے کان پر ہاتھ رکھ کر یہ آیت پڑھی جائے انشاء اللہ کان بہنا بند ہو جائے گا۔

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهٗ سے اخیر سورۃ
تک (سورہ حشر)

۶۸- بہرا پن

اگر کوئی شخص اونچا سنتا ہو تو یہ آیت سات بار پڑھ کر دم کیا جائے۔

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۔

۶۹- کان کا بجنا

اگر کسی کے کان بجتے ہوں تو یہ آیت پڑھ کر دم کی جائے۔

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ط وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا۔

۲- اسی آیت مذکورہ کو روغن گل پر دم کر کے کان میں ٹپکایا جائے انشاء اللہ کان کا بجنا بند ہو جائے گا۔

۷۰-نکسیر

جسے نکسیر کی بیماری ہو یا منہ سے خون آتا ہو تو یہ نقش لکھ کر پانی سے دھو کر اسے پلایا جائے اور لکھ کر مریض کو باندھا بھی جائے۔

لوطا	لوطا	لوطا
لوطا	لوطا	لوطا
لوطا	لوطا	لوطا

۲- جسے نکسیر ہو اسے یہ آیت گیارہ مرتبہ پانی پر دم کر کے پلایا جائے انشاءاللہ خون کا آنا بند ہو جائے گا۔

وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ
اَفَاِنْ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ.

۳- اگر کسی کو نکسیر ہو تو یہ آیت لکھ کر دونوں آنکھوں کے درمیان باندھ دیا جائے۔

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ
فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ
الْوَكِيْلُ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ
سُوْٓءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ ۔

۴- نکسیر کے مریض پر گیارہ مرتبہ درود شریف گیارہ بار سورۂ فاتحہ

گیارہ بار آیۃ الکرسی، گیارہ مرتبہ سورۂ کافرون، گیارہ بار سورۂ فاتحہ، گیارہ بار معوذتین، پھر گیارہ بار سورۂ فاتحہ، اور گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کیا جائے انشاء اللہ شفایاب ہوگا۔ بہت مجرب ہے۔

۵- یہ آیت کتان کے کپڑے پر لکھ کر نکسیر کے مریض کے داہنے ہاتھ میں باندھنا مفید ہے۔

وَقِيلَ يَا اَرْضُ ابْلَعِىْ مَآئَكِ وَيَاسَمَآءُ اَقْلِعِىْ
وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ وَقِيْلَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعَالَمِيْنَ ○ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

۷۱- نزلہ وزکام

اگر کسی کو نزلہ کی وجہ سے چھینکیں بکثرت آتی ہوں تو گیارہ بار یہ آیت کسی کھانے کی چیز پر پڑھ کر مریض کو کھلایا جائے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَنْزَلَ عَلٰى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ
يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا.

۲- تین مرتبہ سورۂ فاتحہ پڑھ کر نزلہ وزکام کے مریض پر دم کیا جائے انشاء اللہ اچھا ہو جائے گا۔

۷۲- درد دانت

جس کے دانت میں درد ہو وہ اس آیت کو کاغذ یا کپڑے پر لکھ کر دانت کے نیچے دبائے۔ انشاء اللہ دانت کا درد جاتا رہے گا۔

لِکُلِّ نَبَاءٍ مُّسْتَقَرٌّ وَّسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝

۲- اول آخر سات مرتبہ درود شریف اور تین مرتبہ ان کلمات کو پڑھ کر دانتوں پر دم کیا جائے اس سے دانتوں کا درد کم ہو جائے گا

اَلْقُوْنَ یَلْقُوْنَ تَلْقُوْنَ

۳- کسی کے دانت میں درد ہو تو یہ آیت پڑھ کر دم کی جائے۔

قُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ط اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ
زَهُوْقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَلَا يَزِيْدُ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا خَسَارًا۔

۴۷- درد داڑھ

کسی کے داڑھ میں درد ہو تو وہ اس عمل کو کاغذ پر لکھ کر جس داڑھ میں درد ہو اس کے نیچے دبائے انشاء اللہ درد جاتا رہے گا۔ نہایت مجرب ہے۔

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّنَسِيَ خَلْقَهٗ قَالَ مَنْ يُّحْيِ الْعِظَامَ
وَهِيَ رَمِيْمٌ قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ
بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ محوصه سمه ولا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ
اِلَّا اللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ج دهكر طكفوم طسم طس
طسم حم حم حم حم حم اُسْكُنْ اَيُّهَا
الْوَجْعُ بِالَّذِيْ سَكَنَ لَهٗ مَا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ
السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ اليقس تقس قسا مسقس ان البهر

بھر ھرا و راب۔

۲۔ اگر کسی کے داڑھ میں درد ہو تو ان حروف کو دیوار کے اوپر لکھ کر کسی میخ سے پہلے حرف کو زور سے دبائے۔ حروف یہ ہیں۔

(ح ، ب ر ، ص ، لا ، و ، ع ، م ، لا ،)

اور دباتے وقت یہ دعا پڑھے۔

وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنا وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ
وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.

پھر اس سے پوچھے کہ کیا درد ختم ہو گیا؟ اگر اثبات میں جواب دے کہ ہاں تو اس میخ کو اسی حرف پر دیوار میں گاڑ دے اور اگر وہ نفی میں جواب دے تو اسی طرح دوسرے حرف پر کرے۔ جس حرف پر درد ختم ہو جائے اسی حرف پر میخ دیوار میں ٹھونک دے، انشاء اللہ ان حروف میں سے کسی پر درد ختم ہو جائے گا۔ اس عمل کے دوران جس کے درد ہے وہ اپنا ہاتھ درد والے داڑھ پر رکھے رہے۔ یہ دعا تین مرتبہ پڑھ کر جس کے داڑھ میں درد ہو اسے دم کیا جائے نہایت مجرب ہے۔

المص طسم كهيعص حم عسق اَللّٰهُ لا إِلٰهَ اِلَّا هُوَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ اُسْكُنْ بكهيعص ذِكْرُ رَحْمِةِ
رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّاً اُسْكُنْ بِالذِیْ اِنْ يَّشَا يُسْكِنْ
الرِّيْحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلیٰ ظَهْرِهٖ اُسْكُنْ بِالَّذِیْ

سَکَنَ لَہٗ مَافِی السَّمٰوٰتِ وَمَافِی الْاَرْضِ وَھُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ.

۴- کسی کے داڑھ میں درد ہو تو یہ دعا تین مرتبہ پڑھ کر شہادت کی انگلی پر دم کر کے دانتوں کے اوپر ملیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم المص طسم کھیعص حم عسق اللّٰہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ اُسْکُنْ.

۵- سورۂ فاتحہ اور سات مرتبہ یہ آیت پڑھ کر داڑھ کے درد پر دم کرنا مفید ہے۔

وَلَہٗ مَا سَکَنَ فِی الَّیْلِ وَالنَّھَارِ وَھُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ○

۴۷- دانتوں کا ہلنا

نماز وتر میں پہلی رکعت میں اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰہ اور دوسری رکعت میں تبَّتْ یَدا اور تیسری رکعت میں قُلْ ھُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ کی مداومت دانت کی تمام تکلیفوں میں مفید ہے۔

۲- مغرب کی نماز کے بعد دو رکعت نفل برائے ایصال ثواب سیدنا حضرت اویس قرنیؒ اس طرح پڑھی جائے کہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سات مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھے انشاء اللہ دانتوں کا ہلنا بند ہو جائے گا۔

۳- لَایَعْلَمُوْنَ ہلتے ہوئے دانتوں کے نیچے لکھ کر رکھنا اور اکیس مرتبہ پڑھ کر دم کرنا مفید ہے۔

۷۵- نقص کلام

اگر کوئی شخص ٹھیک سے بولنے پر قادر نہ ہو تو پانچوں نمازوں کے بعد اکیس اکیس مرتبہ یہ آیت پڑھنا بہت مفید ہے۔

رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ وَیَسِّرْلِیْ اَمْرِیْ وَاحْلُلْ
عُقْدَۃً مِنْ لِّسَانِیْ یَفْقَهُوْا قَوْلِیْ ط

۲- سورۂ بنی اسرائیل کا نقش لکھ کر دھو کر پلانے سے زبان کی بندش انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔

۳- اکتالیس دن تک روزانہ اکتالیس مرتبہ یہ آیت چینی پر دم کر کے چبانا نقص کلام دور کرنے کے لئے مفید ہے۔

رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ وَیَسِّرْلِیْ اَمْرِیْ وَاحْلُلْ
عَقْدَۃً مِنْ لِّسَانِیْ.

۴- فجر اور مغر کی نماز کے بعد سورۂ والتین اکیس اکیس مرتبہ پڑھی جائے انشاءاللہ زبان میں جو کچھ نقص ہوگا۔ دور ہو جائے گا۔

۵- مغز ادام پر ایک سو ایک بار یہ آیت پڑھ کر دم کر کے کھلانا لکنت کے واسطے بہت مفید ہے۔

رَبِّ اشْرَحْ لِیْ صَدْرِیْ وَیَسِّرْلِیْ اَمْرِیْ وَاحْلُلْ
عَقْدَۃً مِنْ لِّسَانِیْ یَفْقَهُوْا قَوْلِیْ ط

۶- شب جمعہ میں چار رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت

میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورۂ یٰسین، دوسری رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورۂ دخان اور تیسری رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورۂ الم تنزیل اور چوتھی رکعت میں سورۂ ملک اور پھر سلام پھیر کر اپنی لکنت کے دور ہونے کی دعا کرے۔ انشاء اللہ زبان جاری ہو جائے گی۔ بہت مجرب ہے۔

۷۶- زبان کی سوجن

اکتالیس مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دم کیا جائے زبان کی سوجن ختم ہو جائے گی۔

• اِنَّ اللّٰہَ یُمْسِکُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا ۚ وَلَئِنْ زَالَتَآ اِنْ اَمْسَکَھُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِہٖ ط

۲- بعد نماز فجر و مغرب اکیس اکیس مرتبہ اسی آیت کا پڑھنا زبان کی سوجن کے واسطے مفید ہے۔

۳- زبان کی سوجن پر تین سو مرتبہ اسم باری تعالیٰ یَامُؤْمِنُ پڑھ کر دم کرنے سے سوجن جاتا رہے گا۔

۷۷- لقوہ

جس شخص کو لقوہ ہو گیا ہو اسے یہ آیت لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں ڈالا جائے انشاء اللہ شفا ہوگا۔

قَدْ نَرٰی تَقَلُّبَ وَجْھِکَ فِی السَّمَآءِ فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَۃً تَرْضٰھَا فَوَلِّ وَجْھَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط

۲- اسی آیت کو ایک سو ایک بار پانی پر دم کر کے لقوہ کے مریض کو پلائیں۔

۷۸-منہ کی پھنسیاں

سورۂ کوثر اکیس مرتبہ بادام پر پڑھ کر اسے گھس کر پھنسیوں اور چھالوں پر لیایا جائے انشاء اللہ ٹھیک ہو جائے گا۔

۲- سورۂ الضحیٰ اکتالیس بار چینی پر دم کر کے چبانے سے انشاء اللہ تمام پھنسیاں ختم ہو جائیں گی۔

۳- سورۂ اخلاص بھی اکتالیس بار چینی پر دم کر کے استعمال کرنا مفید ہے۔

۷۹-حلق کی خراش اور درد

حلق کی خراش اور درد کے لیے ایک سو ایک بار یہ آیت گائے کے مکھن پر دم کر کے حلق میں لگائیں اور اسی آیت کو سات بار نمک پر بھی پڑھ کر لگائیں۔ انشاء اللہ فائدہ ہوگا۔ مجرب ہے۔

فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْم وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ.

۲- حلق کے درد کے لئے یہ آیت لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں پہنیں۔ انشاء اللہ شفا ہوگا۔

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بسم الله الرحمن الرحيم ط قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبِّ الرَّحِيْمِ.

۳- یہ آیت لکھ کر پہننا گلے کی تمام بیماریوں کے لئے نہایت مفید ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم یَا مُغِیْثا بِرَحْمَتِکَ یَا اَرْحَمَ الرّٰحِمِیْنَ.

۸۰- دردِ گردن

گردن کے درد کے لیے یہ آیت کسی کاغذ یا کپڑے پر لکھ کر گلے میں لٹکائی جائے مفید ہے۔

اِنَّا جَعَلْنَا فِیْ اَعْنَاقِھِمْ اَغْلٰلاً فَھِیَ اِلَی الْاَذْقَانِ فَھُمْ مُقْمَحُوْنَ.

۲- بعد نماز فجر اکتالیس مرتبہ یہ آیت پڑھ کر گردن پر دم کیا جائے انشاءاللہ درد جاتا رہے گا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ حَسْبُنَا اللّٰہُ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ فَتَبَارَکَ اللّٰہُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ.

۸۱- گلے کی سوجن

اماس گلو کے لئے یہ آیت لکھ کر گلے میں لٹکانا بہت مفید ہے۔

فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ وَاَنْتُمْ حِیْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَیْہِ مِنْکُمْ وَلٰکِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ فَلَوْ لَا اِنْ کُنْتُمْ غَیْرَ مَدِیْنِیْنَ تَرْجِعُوْنَھَا اِنْ کُنْتُمْ صَادِقِیْنَ.

۸۲- ہچکی

تین سانس میں پانی پئیں اور ہر سانس پر سات مرتبہ یا حفیظ پڑھا جائے۔ انشاء اللہ ہچکی بند ہو جائے گی۔

۸۳- درد سینہ

سینہ کے درد کے لئے یہ آیت لکھ کر گلے میں پہننا بہت مفید ہے۔

اَفَمَنْ شَرَحَ اللہُ صَدْرَہٗ لِلْاِسْلَامِ .

۲- سات مرتبہ یہ آیت آب زم زم پر پڑھ کر مریض کو پلایا جائے انشاء اللہ سینہ کا درد جاتا رہے گا۔ شِفَآءٌ لِّمَا فِی الصُّدُوْرِ۔

۳- اکتالیس مرتبہ یہ آیت زم زم پر پڑھ کر پلانے سے انشاء اللہ درد سینہ ختم ہو جائے گا۔ مجرب ہے۔

وَیَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِیْنَ.

۸۴- کھانسی

اگر کسی کو کھانسی ہو گئی ہو تو یہ آیت اکیس مرتبہ سیاہ نمک پر دم کر کے چٹایا جائے۔

وَشَدَدْنَا مُلْکَہٗ وَاٰتَیْنٰہُ الْحِکْمَۃَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.

۲- سورۂ اخلاص اکتالیس مرتبہ پانی پر دم کر کے پلانا کھانسی کے لئے بہت مفید ہے۔

۳- اکتالیس بار یہ آیت پانی پر پڑھ کر پلانے سے انشاء اللہ کھانسی میں کمی ہو جائے گی۔

سَلَامٌ قَوْلاً مِّنْ رَّبِّ الرَّحِيْمِ

۴- اگر کسی کو کالی کھانسی ہو گئی ہو تو سات دن تک اکتالیس مرتبہ سورۂ الم نشرح پانی پر دم کر کے پلایا جائے اور اسی سورت کو لکھ کر گلے میں لٹکائیں انشاء اللہ شفا ہوگا۔ مجرب ہے۔

۵- سورۂ غاشیہ تین بار پانی پر دم کر کے پلانا اور اسی کو لکھ کر گلے میں پہنانے سے کالی کھانسی ختم ہو جائے گی بہت مفید ہے۔

۸۵- درد پھیپھڑہ

اگر کسی کے پھیپھڑہ میں درد ہو یا پانی بھر گیا ہو تو اول و آخر تین تین مرتبہ درود شریف اور گیارہ بار یہ آیت پانی پر دم کر کے اکتالیس روز تک مسلسل مریض کو پلایا جائے۔ نہایت مجرب ہے۔

اَلرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ
اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ
يَسْجُدَانِ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ سے
مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ تک (سورہ رحمٰن)

۲- پھیپھڑے کے مریض کو ''السلام المؤمن'' تین سو بار مٹھائی پر دم کر کے کھلایا جائے۔

۳- سورۂ یٰسین ابتداء سے پہلے مبین تک سات بار پانی پر دم کر کے پھیپھڑے کے مریض کو پلایا جائے اور اسی کو لکھ کر اسی کے گلے میں ڈالا جائے بہت نافع ہے۔

۸۶- دمہ

دمہ کے مریض کو یہ آیت لکھ کر گلے میں ڈالا جائے فائدہ ہوگا۔

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَیْہِ مِنْ رَّبِّہٖ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط
کُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰہِ وَمَلٰٓئِکَتِہٖ وَکُتُبِہٖ وَرُسُلِہٖ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ
اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِہٖ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَکَ رَبَّنَا
وَاِلَیْکَ الْمَصِیْرُ o لَا یُکَلِّفُ اللّٰہُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَہَا
لَہَا مَا کَسَبَتْ وَعَلَیْہَا مَا اکْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
اِنْ نَّسِیْنَا اَوْ اَخْطَاْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا اِصْرًا
کَمَا حَمَلْتَہٗ عَلَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
مَا لَا طَاقَۃَ لَنَا بِہٖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ
مَوْلٰنَا فَانْصُرْنَا عَلَی الْقَوْمِ الْکٰفِرِیْنَ o

۲- آیۃ الکرسی خٰلِدُوْنَ تک لکھ کر مریض کے گلے میں ڈالا جائے انشاء اللہ مرض جاتا رہے گا۔

۳- سورۂ فاتحہ چینی کی رکابی پر زعفران سے لکھ کر سات یوم تک مسلسل دمہ کے مریض کو پلایا جائے بہت مفید ہے۔

۸۷- درد دل

اگر کسی کے دل میں درد ہو تو یہ آیت لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں اس طرح لٹکایا جائے کہ تعویذ دل پر لٹکا رہے انشاء اللہ درد ختم ہو جائے گا۔

یَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِیْهِ شِفَآءٌ
لِّلنَّاسِ.

۲- چینی کی پلیٹ پر سورۂ فاتحہ لکھ کر پانی سے دھو کر پانی دل کے مریض کو پلایا جائے بفضلہٖ تعالیٰ جاتا رہے گا۔

۸۸- دل کا دھڑکنا

اگر کسی کا دل دھڑکتا ہو تو یہ آیت لکھ کر گلے میں اس طرح لٹکائی جائے کہ تعویذ ہمیشہ دل پر پڑا رہے۔

لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ.

۲- آیت الکرسی اور سورۂ بقرہ اٰمَنَ الرَّسُوْلُ سے آخر سورۃ تک لکھ کر گلے میں لٹکانا دھڑکن کو دور کرنے کے لئے نہایت مجرب ہے۔

۳- کسی برتن پر یہ آیت لکھ کر زم زم سے دھو کر پلانا دل کی دھڑکن کے ازالہ کے لئے اکسیر ہے۔

اَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ وَوَضَعْنَا عَنْکَ وِزْرَکَ
الَّذِیْ اَنْقَضَ ظَهْرَکَ وَرَفَعْنَا لَکَ ذِکْرَکَ فَاِنَّ مَعَ
الْعُسْرِ یُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا فَاِذَا فَرَغْتَ

فَانْصَبْ وَاِلٰی رَبِّکَ فَارْغَبْ.

۴- یہ آیت لکھ کر دھو کر پینے سے انشاء اللہ دل کا دھڑکنا جاتا رہے گا۔

لِاِیْلٰفِ قُرَیْشٍ اِیْلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّیْفِ فَلْیَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَیْتِ الَّذِیْ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ.

۵- بعد نماز فجر اکیس مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کر کے اکیس دن تک اختلاج قلب کے مریض کو پلایا جائے انشاء اللہ بہت فائدہ ہوگا۔

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَیْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْکَ رَحْمَةً اِنَّکَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

۶- سورۂ یٰسین بارش کے پانی پر دم کر کے اختلاج قلب کے مریض کو گیارہ دن تک پلانا نہایت مفید ہے۔ بہت مجرب ہے۔

۸۹- دل کا ڈوبنا

دل کے مریض کو یہ آیت لکھ کر گلے میں باندھنا اور چینی کی پلیٹ پر لکھ کر دھو کر پلانا بہت مفید ہے۔

قُلْ یٰعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ یَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِیْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِیْمُ.

۲- یہ آیت پانی پر دم کر کے سات دن تک پلانا دل کے تمام امراض

کے لئے فائدہ بخش ہے۔

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ سے اخیر سورت تک (سورہ فتح)

۹۰- درد معدہ

جس کے معدہ میں درد ہو اسے بعد نماز فجر اکیس مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کر کے اکیس دن تک پلایا جائے

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوْبَنَا بَعْدَ اِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَّدُنْکَ رَحْمَةً ط اِنَّکَ اَنْتَ الْوَهَّابُ.

۲- معدہ کے درد کے مریض کو یہ آیت لکھ کر گلے میں ڈالیں اور چینی کی رکابی پر لکھ کر دھو کر پلایا بھی جائے۔ انشاء اللہ شفا ہوگا۔

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللّٰهِ يَبْغُوْنَ وَلَهٗ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ.

۳- سورۂ یٰسین بارش کے پانی پر دم کر کے گیارہ دن تک معدہ کے مریض کو پلانا اکسیر ہے۔

۴- یہ آیت پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے اور اسی کو لکھ کر گلے میں ڈالا جائے انشاء اللہ معدہ کا درد جاتا رہے گا۔

قُلْ اِنَّنِىْ هَدٰىنِىْ رَبِّىْ اِلٰى صِرَاطِ مُّسْتَقِيْم.

۵- اگر فم معدہ میں درد ہو تو گیارہ روز تک یہ آیت گیارہ بار پانی پر دم

کر کے پلایا جائے اور اسی کو لکھ کر گلے میں لٹکایا جائے انشاء اللہ درد بالکل ختم ہو جائے گا۔

اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَا كُمْ عَبَثاً وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ فَتَعٰلَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ.

٦- جسے فم معدہ میں درد ہو اسے سات دن تک تین سیاہ مرچ پر اکیس بار سورۂ اخلاص پڑھ کر کھلانا نافع ہے۔

۹۰- بدہضمی

اگر کوئی شخص زیادہ کھالے اور بدہضمی کا اندیشہ ہو تو کھانے کے بعد ہاتھ سے اپنے پیٹ کو سہلاتا ہوا اوپر سے نیچے کو لائے اور تین مرتبہ یہ دعا پڑھے انشاء اللہ بدہضمی نہیں ہوگی۔ مجرب ترین عمل ہے۔ تا آنکہ ہیضہ میں بھی معید ہے۔

اَللَّيْلَةُ لَيْلَةُ عيدى عِبْدِىْ يَا كَرِشِىْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْ سَيِّدِىْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْقَرَشِىْ.

۲- سات مرتبہ یہ آیت نمک پر دم کر کے کھلایا جائے بدہضمی کے لئے بہت مفید ہے۔

وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّراً وَّنَذِيْراً.

۳- جسے بدہضمی ہوگئی ہو اسے سورہ قدر گیارہ بار پانی پر دم کر کے پلایا جائے۔

۴- کھانے کے بعد تین بار یہ پڑھ کر پیٹ پر پھیر لینا بدہضمی کے لیے مفید ہے اور ہضم کے لئے اکسیر ہے۔

اجرد ہاتھ تجرد ہاتھ بھسم پیٹ وہ بھات دہائی قطب عالم بہاء الدین بھنڈروی کی۔

۹۲- درد پیٹ

اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو سات مرتبہ یہ آیت نمک پر دم کر کے چٹایا جائے۔

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ.

۲- گیارہ بار یہ آیت پانی پر یا کسی پینے کی چیز پر دم کر کے پلانے سے انشاء اللہ پیٹ کا درد جاتا رہے گا۔

اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ.

۳- سورہ قصص اور سورۂ لقمان پانی پر دم کر کے پلانا پیٹ کے درد کے لئے نہایت اکسیر ہے۔

۴- سورۂ فاتحہ سورۂ اخلاص، معوذتین اور سات مرتبہ یہ دعا پانی پر پڑھ کر پلانا قولنج کے لئے بہت نافع ہے۔

اَعُوْذُ بِوَجْهِ الْعَظِيْمِ وَقُدْرَتِهِ الَّتِیْ لَا تَمْنَعُ مِنْهَا مِنْ شَرِّ مَا اَجِدُ مِنْهُ.

۵- پانچ سو مرتبہ اسم باری تعالیٰ یا بَسِیْطُ یا کَرِیْمُ پانی پر پڑھ کر پلانا بھی قولنج کے لئے بہت نافع ہے۔

۹۳- دست

اگر کسی کو دست آتے ہوں تو سات دن تک یہ آیت ایک ہزار مرتبہ پانی پر دم کر کے پلایا جائے نہایت اکسیر ہے۔

اِنَّ اللہ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَ الَّذِیْنَ ھُمْ مُحْسِنُوْنَ

۲- جسے دست آ رہے ہوں اس کے پہلے دن بسم اللہ اور دوسرے دن بسم اللہ الرحمن الرحیم الٓمّٓ اَللہُ لَا اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ لکھ کر پیٹ پر باندھا جائے۔

۳- اگر خونی دست آتے ہوں تو اکیس دن تک یہ آیت لکھ کر پانی میں دھو کر پلایا جائے۔ اور اسی کو لکھ کر گلے میں پہنایا بھی جائے بہت مفید و مجرب ہے۔

یٰاَیُّھَا النَّاسُ قَدْ جَآئَتْکُمْ مَوْعِظَۃٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ وَشِفَآءٌ
لِّمَا فِی الصُّدُوْرِ وَھُدًی وَّرَحْمَۃٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ۝ قُلْ
فَضْلِ اللہِ وَبِرَحْمَتِہٖ فَبِذَالِکَ فَلْیَفْرَحُوْا ھُوَ خَیْرٌ
مِّمَّا یَجْمَعُوْنَ.

۴- خونی دست میں اسم باری تعالیٰ یا حَفِیْظُ تین سو بار پانی پر دم کر کے پلانا مفید ہے۔

۹۴- قے

اگر متلی ہو تو یہ آیت تین بار پانی پر دم کر کے پلایا جائے۔

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ اٰمَنُوْا بِمَا
اَنْزَلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ
سَيِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ.

۲- گیارہ بار یہ آیت نمک پر دم کر کے چٹایا جائے انشاء اللہ متلی آنا بند ہو جائے گی۔

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ سے
اُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ تک (سورہ واقعہ)

۳- اکتالیس مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کر کے پلانا اور اسی آیت کو لکھ کر گلے میں ڈالنا متلی کے واسطے بہت مفید ہے۔

يَوْمَئِذٍ يُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ.

۴- کورے برتن پر یہ آیت لکھ کر عرق گلاب وگاؤزبان سے دھو کر پلایا جائے انشاء اللہ قے آنا بند ہو جائے گی۔

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۚ عَيْنًا
فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا.

۵- اگر خون کی قے آتی ہو تو اکیس روز تک بعد نماز ظہر اکتالیس مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کر کے پلایا جائے انشاء اللہ العزیز شفا ہو گی۔

اور خون آنا بند ہو جائے گا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ حَسْبُنَا اللّٰہُ وَنِعْمَ الْوَکِیْلُ فَتَبَارَکَ اللّٰہُ اَحْسَنُ الْخَالِقِیْنَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّۃَ اِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ.

۹۵- پیاس کی زیادتی

اگر پیاس زیادہ لگتی ہو تو یہ آیت سات بار پانی پر دم کر کے پلانا بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَاَسْکَنّٰہُ فِی الْاَرْضِ.

۲- جسے پیاس بہت زیادہ لگتی ہو اسے اکیس مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کر کے پلایا جائے۔

وَھُوَ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْرًا بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِہٖ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً طَھُوْرًا.

۹۶- بھوک کی کمی

اگر بھوک کم لگتی ہو تو اکتالیس مرتبہ یہ آیت کھانے پر دم کر کے کھلایا جائے۔

ھُوَ یُطْعِمُنِیْ وَیَسْقِیْنِ.

۲- بھوک بالکل نہ لگتی ہو تو اکیس مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کر کے پلایا جائے ان شاء اللہ بھوک خوب لگے گی۔ مجرب ہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهٗ وَاَنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ حَکِیْمٌ.

۳- اسم باری تعالیٰ "یَا قَوِیُّ" تین سو بار کھانے پر دم کر کے کھلانے سے بھوک میں اضافہ ہوگا۔

۴- اکتالیس بار یہ آیت پانی پر دم کر کے پلانے سے انشاء اللہ بھوک خوب لگے گی۔

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِیْنَةَ اللّٰهِ الَّتِیْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِهٖ
وَالطَّیِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ ط قُلْ هِیَ لِلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا فِی
الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا خَالِصَةً یَّوْمَ الْقِیٰمَةِ ط

۹۷- بھوک کی زیادتی

اگر بھوک زیادہ لگتی ہو تو گیارہ مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کر کے پلانا بہت مفید ہے۔

مَا یَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ فَلَا مُمْسِکَ لَهَا
وَمَا یُمْسِکْ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْ بَعْدِهٖ وَهُوَ الْعَزِیْزُ
الْحَکِیْمُ. یَا اَیُّهَا النَّاسُ اذْکُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَیْکُمْ
هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَیْرُ اللّٰهِ یَرْزُقُکُمْ مِّنَ السَّمَآءِ
وَالْاَرْضِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاَنّٰی تُؤْفَکُوْنَ.

۲- گیارہ بار یہ آیت پانی پر دم کر کے پلانے سے بھوک کی زیادتی ختم ہوجائے گی۔

وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَاتُوْعَدُوْنَ.

۳۔ تین سو مرتبہ اسم باری تعالیٰ ''یا صمد'' کھانے پر دم کر کے کھلانا بھوک کی زیادتی میں فائدہ دیتا ہے۔

۹۸- دردِ جگر

جگر میں درد ہو تو یہ آیت لکھ کر درد کی جگہ پر باندھا جائے اور اسی کو بارش کے پانی پر دم کر کے ایک ہفتہ تک پلایا جائے۔ انشاء اللہ درد جاتا رہے گا بہت مجرب ہے۔

اِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِىْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ.

۲۔ جگر میں درد، زخم اور پتھری وغیرہ ہو تو اس دعا کو لکھ کر مقام درد پر باندھنا بہت مفید ہے۔

بِسْمِ اللهِ الرحمن الرحيم يَاقُوَّة يَامَنْ قَوِىُّ يَا مَنْ اَمَرَ بِاذْنِ اللهِ.

۳۔ جگر کی تمام بیماریوں کے لیے اکیس بار یہ آیت پانی پر دم کر کے پلانا نافع ہے۔

تَبَارَكَ اسْمَ رَبِّكَ ذُوالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

۹۹- پتہ کی بیماری

پتہ کی بیماری کیلئے گیارہ بار یہ آیت پانی پر دم کر کے پلانا مفید ہے۔

الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى۔

۲۔ اکیس مرتبہ یہ آیت چینی پر دم کر کے چٹانا اور اسی آیت کو لکھ کر مقام طحال پر باندھنا بہت نافع ہے۔

مَاسَكَنَ فِى الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۔

۳۔ سورۂ والناس گیارہ مرتبہ بارش کے پانی پر دم کر کے پلایا جائے انشاءاللہ پتہ کی بیماریاں جاتی رہیں گی۔

۴۔ جو شخص ہمیشہ جوتہ پہننے کی ابتداء داہنے پیر اور نکالنے کی ابتداء بائیں پیر سے کرے گا وہ طحال سے محفوظ رہے گا۔

۵۔ جسے طحال ہوا سے سورہ ممتحنہ لکھ کر دھو کر پلایا جائے انشاءاللہ شفا ہوگا۔

۶۔ اس نقش کو پاک چمڑے کے ایک ٹکڑے پر جمعہ کے دن لکھ کر گلے میں اس طرح لٹکائیں کہ وہ چمڑا بائیں جانب تلی پر لٹکا رہے تو طحال ختم ہو جائے گا۔ نہایت مجرب ہے۔ یہ نقش ایک ہفتہ تک لٹکا رہنے دیں۔

ادا ح ح هم ما طل ملما	محمد الی رای	۱۸۹۷۳

صالح صح وصح م له صالح   دون مانع من الی   ان تنصروہ ومرہ

۷۔ اس نقش کو لکھ کر بائیں بازو پر باندھنا طحال کیلئے بہت مفید ہے۔

۲۵۹۴۸۱۹۲۳ ح ح د د ضوع

۸۔ سنیچر کے دن طلوع آفتاب سے قبل یہ عمل لکھ کر اس کا تعویذ اون کے دھاگے سے سی کر تیار کیا جائے اور اس تعویذ کو گلے میں اس طرح لٹکایا جائے کہ بائیں جانب تلی پر پڑا رہے انشاءاللہ تمام تکلیف جاتی رہے گی۔

ح ح ہ د م ص ھــا ا ص
ا ح اا مــاتــت الـی الابـد

۹- سورۂ والضحیٰ لکھ کر جس جگہ درد ہو وہاں باندھا جائے۔

۱۰۰- جلندر

جسے استسقاء کی بیماری ہوگئی ہو اسے تین بار سورۂ واقعہ پانی پر دم کر کے پلایا جائے۔

۱۰۱- یرقان

جسے یرقان ہوگیا ہو اسے سورۂ لَمْ یَكُنِ الَّذِیْ لکھ کر گلے میں ڈالا جائے انشاء اللہ العزیز یرقان جاتا رہے گا۔ مجرب ہے۔

۲- ایک سو ایک بار یہ آیت پانی پر دم کر کے پلانا یرقان کے لیے بہت مفید ہے۔

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ.

۳- تین سو بار اسم باری تعالیٰ ''الحسیب'' پانی پر دم کر کے اکیس دن تک پلانے سے انشاء اللہ یرقان ختم ہو جائے گا۔

۱۰۲- درد بازو

داہنے بازو میں درد ہو تو تین بار یہ آیت پڑھ کر درد کی جگہ پر دم کیا

جائے انشاء اللہ درد جاتا رہے گا۔

وَاَمَّامَنْ اُوْتِیَ کِتَابَهٗ بِیَمِیْنِهٖ فَیَقُوْلُ هَآءُ مُ اقْرَءُ وْا کِتَابِیَهْ.

۲- جس کے بائیں بازوں میں درد ہو اسے یہ آیت لکھ کر جس جگہ درد ہو وہاں باندھا جائے انشاء اللہ درد ختم ہو جائے گا۔

وَاَصْحٰبُ الْیَمِیْنِ مَآاَصْحٰبُ الْیَمِیْنِ○فِیْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ○

۳- بازو میں تکلیف ہو تو سورۂ طارق تل کے تیل پر دم کر کے مالش کرنے سے درد رفع ہو جائے گا۔

۴- سورۂ ھُمزہ بابونہ کے تیل پر دم کر کے بازو میں لگانا درد وغیرہ کے لئے بہت مفید ہے۔

۱۰۳- درد گردہ

سورہ لِاِیْلٰفِ کھانے پر دم کر کے کھلانا درد گردہ کو نافع ہے۔

۲- اگر گردہ میں درد ہو تو یہ آیت مشک و زعفران سے لکھ کر جس جگہ درد ہو وہاں باندھا جائے۔ درد گردہ کے لئے بہت مفید ہے۔

وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَداً وَّاَنَّهٗ لَمَّا
قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ یَدْعُوْهُ کَادُوْا یَکُوْنُوْنَ عَلَیْهِ لِبَداً.

۳- درد گردہ کے لئے اکیس مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کر کے پلانا بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِیْ یُرْسِلُ الرِّیَاحَ بُشْراً بَیْنَ یَدَیْ رَحْمَتِهٖ

حَتّٰی اِذَا اَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنٰهُ لِبَلَدٍ مَّیِّتٍ فَاَنْزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَاَخْرَجْنَا بِهٖ مِنْ کُلِّ الثَّمَرٰتِ ط کَذٰلِکَ نُخْرِجُ الْمَوْتٰی لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُوْنَ.

۴- اگر گردہ میں پتھری ہو گئی ہو تو سورۂ تبّت یدا اور یہ آیت چینی کی رکابی پر لکھ کر عرق مکوہ سے دھو کر گیارہ دن تک پلانا نہایت ہی مفید ہے۔

یٰاَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآئَتْکُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِی الصُّدُوْرِ وَهُدًی وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ ○ قل بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِکَ فَلْیَفْرَحُوْا هُوَ خَیْرٌ مِّمَّا یَجْمَعُوْنَ.

۵- بارش کے پانی پر اکیس مرتبہ یہ آیت دم کر کے پلانا درد گردہ کی پتھری میں فائدہ پہنچاتا ہے۔

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ سے عَلِیْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ تک (پ ۲۷ سورة الحدید)

۱۰۴- درد مثانہ

مثانہ میں درد ہو تو گیارہ روز تک گیارہ مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کر کے پلایا جائے۔

یٰعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ

رَحْمَةِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ط اِنَّهٗ هُوَ
الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

۲- مثانہ کے درد میں اکتالیس مرتبہ یہ آیت عرق گلاب پر دم کر کے پلانا مفید ہے۔

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنٰهُ
النَّجْدَيْنِ.

۱۰۵- پیشاب کی بندش

اگر پیشاب کا آنا بند ہو گیا ہو تو اکہتر (۷۱) مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کر کے مریض کو پلایا جائے اور لکھ کر گلے میں ڈالا جائے انشاء اللہ پیشاب جاری ہو جائے گا۔ بہت مجرب ہے۔

وَاِذَا اسْتَسْقٰى مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ
الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ط قَدْ عَلِمَ كُلُّ
اُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا مِنْ رِّزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا
فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ.

۲- عرق گلاب پر ایک سو ایک بار یہ آیت دم کر کے پلانے سے پیشاب کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ.

۳- ایک شخص کا پیشاب بالکل رک گیا تھا تو کسی بزرگ نے یہ آیت

لکھ کر باندھ دی جس سے فوراً پیشاب جاری ہو گیا۔

فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ مُّنْهَمِرٍ وَّفَجَّرْنَا
الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ.

۴۔ پیشا کی رکاوٹ دور کرنے کے لئے سورۂ اخلاص گیارہ مرتبہ پانی پر دم کر کے پلانا چاہیئے۔

۱۰۶۔ پیشاب کی زیادتی

اگر پیشاب بستر پر نکل جاتا ہو تو سات مرتبہ یہ آیت لکھ کر پانی میں گھول کر پلایا جائے۔

يٰاَرْضُ ابْلَعِىْ مَآئَكِ وَيٰسَمَآءُ اَقْلِعِىْ وَغِيْضَ
الْمَآءُ وَقُضِىَ الْاَمْرُ.

۲۔ پیشاب بکثرت آتا ہو تو اکتالیس با . یہ آیت چینی پر دم کر کے چٹانے سے یہ مرض جاتا رہے گا۔

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرٍ فَاَسْكَنّٰهُ فِى الْاَرْضِ
وَاِنَّا عَلٰى ذَهَابٍ بِهٖ لَقٰدِرُوْنَ .

۳۔ سورۂ فاتحہ اکیس مرتبہ تلوں پر دم کر کے گیارہ دن تک کھلایا جائے انشاءاللہ کثرت پیشاب کا مرض ختم ہو جائے گا۔

۱۰۷۔ سوزاک

سوزاک کے مریض کو یہ آیت لکھ کر عرق گلاب میں گھول کر پلانا

بہت مفید ہے۔

بِسْمِ اللہ الرحمن الرحیم وَیَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِیْنَ ٥ اِذْ جَآئَتْھُمْ مَوْعِظَۃٌ مِّنْ رَّبِّکُمْ ٥ وَرَحْمَۃٌ وَّنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا ھُوَ شِفَاء

۲- جسے سوزاک کی بیماری ہوگئی ہو اسے سورۂ مزمل لکھ کر گلے میں ڈالا جائے اور بارش کے پانی پر دم کر کے پلایا بھی جائے انشاء اللہ مرض جاتا رہے گا۔ مجرب ہے۔

۳- جو شخص سوزاک کے مرض میں مبتلا ہو وہ ہر فرض نماز کے بعد سات مرتبہ یہ دعا پڑھا کرے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم لَا اِلٰہَ اِلَّا ھُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمِ.

۴- سوزاک کے مریض کو یہ آیت لکھ کر گلے میں ڈالنا فائدہ پہنچاتا ہے۔

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللہِ وَالَّذِیْنَ مَعَہٗ اَشِدَّآءُ عَلَی الْکُفَّارِ سے اَجْراً عَظِیْما تک (سورہ فتح)

۱۰۸- آتشک

سورۂ تکویر آب زم زم پر دم کر کے پلانا آتشک کیلئے بہت مفید ہے۔

۲- ایک سو ایک بار یہ آیت پانی پر دم کر کے اکتالیس روز تک پلایا جائے انشاء اللہ آتشک کا مرض جاتا رہے گا۔

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا وَّالسّٰبِحٰتِ

سَبْحاً فَالسَّابِقَاتِ سَبْقاً فَالْمُدَبِّرَاتِ اَمْراً.

۱۰۹- جریان

جریان کے مریض کو سورۂ حجرات تین بار پانی پر دم کر کے اکتالیس روز تک پلایا جائے انشاء اللہ شفا ہو جائے گا۔

۲- جسے جریان ہو گیا ہو اسے بعد نماز مغرب سورۂ فاطر پوست اسبغول پر دم کر کے مسلسل اکیس روز تک استعمال کرایا جائے۔

۳- بعد نماز عصر اول و آخر سات سات مرتبہ درود شریف اور سو بار یہ آیت پڑھنا جریان کے لئے بہت مفید ہے۔

رَبَّنَا اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْلَنَا اِنَّکَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٍ

۱۱۰- نامردی

جو شخص جماع پر قادر نہ ہو اسے بعد نماز فجر یہ آیت مرغی کے انڈے پر دم کر کے اکتالیس روز تک مسلسل کھلایا جائے۔ انشاء اللہ وہ جماع پر قادر ہو جائے گا مجرب ہے۔

یَا اَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّکُمُ الَّذِیْ خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً
کَثِیْراً وَّنِسَآءً ج وَاتَّقُوْا اللّٰہَ الَّذِیْ تَسَآئَلُوْنَ بِهٖ
وَالْاَرْحَامُ اِنَّ اللّٰہَ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیْباً.

۲- نامرد کو یہ آیت ایک سو مرتبہ تخم مولی پر دم کر کے اکیس دن تک

گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کرانا بہت مفید ہے۔

اَلرِّجَالُ قَوّٰامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ

۳- صبح وشام اول وآخر تین تین مرتبہ درود شریف اور ایک ہزار مرتبہ یَا قَوِیُّ یَامُعِیْنُ کا ورد نامردی دور کرنے کے لئے بہت نافع ہے۔

۴- روزانہ بعد نماز فجر تین سو بار اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ تین چلہ تک پڑھنا نامردی میں فائدہ بخش ہے۔

۱۱۱- کثرت احتلام

اگر سوتے وقت سورۂ نوح پڑھ لیا جائے تو احتلام سے حفاظت رہتی ہے۔

۲- اگر کثرت احتلام کا مرض ہو تو سورۂ معارج لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاء اللہ احتلام سے محفوظ رہے گا۔

۳- سوتے وقت شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پر یا عمر اس طرح لکھے کہ پڑھنے والے کے سامنے سیدھا ہو فضلہ تعالیٰ کثرت احتلام کا مرض جاتا رہے گا۔

۴- بستر پر جاتے وقت سورۂ والطارق پڑھ لیا کرے تو کبھی کثرت احتلام کا مرض نہیں ہوگا اور اگر پہلے سے یہ مرض ہوگا تو بالکل ختم ہو جائے گا بہت مجرب ہے۔

۱۱۲- بواسیر

یہ آیت لکھ کر بازو پر باندھنا بواسیر کے لئے بہت مفید ہے۔

لَایَرَوْنَ فِیْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِیْرًا۔

۲- فجر کی سنتوں میں ہمیشہ یہ سورتیں پڑھنا بواسیر ونواسیر کے لئے بے حد فائدہ مند ہے پہلی رکعت میں وَالضُّحٰی، اَلَمْ نَشْرَحْ اَلَمْ تَرَ کَیْفَ اور دوسری رکعت میں لِاِیْلٰفِ، کَافِرُوْنَ اور سورۂ اخلاص۔

۳- جسے بواسیر ہوگئی ہو وہ بعد مغرب دو رکعت نماز اس ترکیب سے پڑھے کہ پہلی رکعت میں ”الم نشرح“ دوسری رکعت میں ”الم تر کیف“ اور پھر سلام پھیر کر سو مرتبہ استغفار بفضلہٖ تعالیٰ مرض میں افاقہ ہوگا۔

۴- روزانہ سات سو مرتبہ اسم باری تعالیٰ یَا مَالِکُ کا اکتالیس دن تک ورد کرنا بواسیر میں بہت نافع ہے۔

۵- بعض بزرگوں نے تحریر فرمایا ہے کہ اس آیت کو بلوری برتن پر زعفران وگلاب سے لکھ کر سیاہ انگور کے عرق سے دھو کر اس میں تھوڑا سا کہرباء، کافور، اور تھوڑی سے چینی ملا کر پلانا بواسیر خونی میں بے حد مفید ومجرب ہے۔

وَاِذْ یَرْفَعُ اِبْرَاهِیْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَاِسْمَاعِیْلُ رَبَّنَا
تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا
مُسْلِمَیْنِ لَکَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّکَ وَاَرِنَا
مَنَاسِکَنَا وَتُبْ عَلَیْنَا اِنَّکَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ رَبَّنَا

وَابۡعَثۡ فِيۡهِمۡ رَسُوۡلاً مِنۡ هُمۡ يَتۡلُوۡا عَلَيۡهِمۡ اٰيٰتِکَ وَيُعَلِّمُهُمُ الۡکِتَابَ وَالۡحِکۡمَةَ وَيُزَکِّيۡهِمۡ اِنَّکَ اَنۡتَ الۡعَزِيۡزُ الۡحَکِيۡمُ.

۱۱۳- دردِ ران

اگر ران میں درد ہو تو یہ آیت لکھ کر درد کی جگہ پر باندھا جائے۔

لَئِنۡ اَنۡجَيۡنَا مِنۡ هٰذِهٖ لَنَکُوۡنَنَّ مِنَ الشَّاکِرِيۡنَ.

۲- ران کے درد میں یہ آیت پانی پر دم کر کے پلایا جائے فائدہ ہوگا۔

وَاِذَا سَاَلَکَ عِبَادِیۡ عَنِّیۡ فَاِنِّیۡ قَرِيۡبٌ اُجِيۡبُ دَعۡوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ.

۳- یہ آیت پانی پر دم کر کے پلانا ران کے درد میں بہت نافع ہے۔

اَللّٰهُ الَّذِیۡ اَنۡزَلَ الۡکِتَابَ بِالۡحَقِّ وَالۡمِيۡزَانَ وَمَا يُدۡرِيۡکَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيۡبٌ.

۴- ایک سو ایک بار یہ آیت پانی پر دم کر کے پلایا جائے انشاء اللہ ران کا درد جاتا رہے گا۔

اَللّٰهُ الَّذِیۡ جَعَلَ لَکُمُ الۡاَرۡضَ قَرَارًا وَّالسَّمَآءَ بِنَآءً وَّصَوَّرَکُمۡ فَاَحۡسَنَ صُوَرَکُمۡ وَرَزَقَکُمۡ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذٰلِکُمُ اللّٰهُ رَبُّکُمۡ فَتَبَارَکَ اللّٰهُ رَبُّ الۡعٰلَمِيۡنَ.

۱۱۴- دردِ پنڈلی

پنڈلی میں درد ہو تو یہ آیت لکھ کر درد کی جگہ باندھی جائے انشاء اللہ درد جاتا رہے گا مجرب ہے۔

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اِلٰی رَبِّکَ یَوْمَئِذِنِ الْمَسَاق.

۲- پنڈلی کی درد میں یہ آیت لکھ کر مقام درد پر باندھنا بہت مفید ہے۔

اَللّٰہُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا فِیْ
سِتَّۃِ اَیَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ مَالَکُمْ مِنْ دُوْنِهٖ
مِنْ وَّلِیٍّ وَّلَا شَفِیْعٍ اَفَلَا تَتَذَکَّرُوْنَ.

۱۱۵- پاؤں کے امراض

پاؤں میں کسی طرح کی کوئی تکلیف ہو تو گیارہ مرتبہ ان آیات کو تیل پر دم کر کے مالش کیا جائے انشاء اللہ تمام تکلیف دور ہو جائے گی۔

اَفَمَنْ یَّمْشِیْ مُکِبًّا عَلٰی وَجْهِهٖ اَهْدٰی اَمَّنْ یَّمْشِیْ سَوِیًّا
عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ ۝ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
وَکُلُّ اُولٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا قُلْ هُوَ اللّٰہُ اَحَدٌ اَللّٰہُ
الصَّمَدُ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوْلَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَهٗ کُفُوًا اَحَدٌ.

۲- اگر پاؤں میں رعشہ ہو گیا ہو تو ایک پاؤ روغن زیتون پر تین ہزار مرتبہ یہ آیت پڑھ کر پاؤں کی انگلیوں پر مالش کیا جائے۔

اَلَا یَظُنُّ اُولٰئِکَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ لِیَوْمٍ عَظِیْمٍ یَوْمَ

يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

۱۱۶- درد انگلی

اگر پاؤں کی انگلی میں درد ہو تو تین مرتبہ یہ آیت ہاتھ پر دم کر کے انگلیوں پر پھیرا جائے۔

اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ.

۲- پاؤں کی انگلیوں میں کوئی تکلیف ہو تو ایک سو ایک بار یہ آیت پانی پر دم کر کے پلانا نہایت مفید ہے۔

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرحمن الرحیم اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ.

۳- انگلیوں میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو تین سو مرتبہ یہ آیت تل کے تیل پر دم کر کے مالش کیا جائے۔ انشاء اللہ تمام تکلیف دور ہو جائے گی۔

لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ.

۴- اگر پاؤں کی انگلیوں میں چوٹ، درد یا زخم وغیرہ ہو تو یہ آیت لکھ کر گلے میں ڈالا جائے۔

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ٥.

۱۱۷- سینہ کا ابھار

کسی عورت کی پستان ابھری نہ ہو بلکہ بالکل چھوٹی ہو تو چالیس

دن تک یہ آیت روزانہ اکتالیس مرتبہ پانی پر دم کر کے پلائی جائے۔

وَاَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ فَاَصْبَحَ
هَشِیْماً تَذْرُوْهُ الرِّیَاحَ وَکَانَ اللّٰهُ عَلیٰ کُلِّ شَیٔ مُّقْتَدِراً

۲۔ پستانوں کے ابھار نہ ہونے میں یہ آیت لکھ کر چھاتی پر باندھنا بہت مفید ہے اور پستانوں میں درد ہو جب بھی یہ عمل نافع ہے۔

وَاِنَّ لَکُمْ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِیْکُمْ مِّمَّا فِیْ بُطُوْنِهٖ
مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَّدَمٍ لَّبَناً خَالِصاً سَآئِغاً لِّلشَّارِبِیْنَ.

۳۔ جس عورت کی پستان چھوٹی ہوں تو ایک ہزار مرتبہ اسم باری تعالیٰ یَامَاجِدُ پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے اپنی چھاتی پر ہاتھ پھیرے۔

۱۱۸۔ دودھ کی کمی

اگر عورت کے پستان میں دودھ پیدا نہ ہو تو ایک سو ایک بار یہ آیت بارش کے پانی پر دم کر کے پلایا جائے انشاءاللہ خوف دودھ ہوگا۔

وَهِیَ تَجْرِیْ بِهِمْ فِیْ مَوْجٍ کَالْجِبَالِ ○ فِیْهِمَا عَیْنَانِ تَجْرِیٰنِ.

۲۔ پستانوں سے دودھ کم آتا ہو تو یہ آیت اکیس بار پانی پر دم کر کے اکیس دن تک پلایا جائے اور اسی کو لکھ کر عورت کے سینہ پر باندھا جائے۔

وَاَوْحَیْنَا اِلٰی اُمِّ مُوْسٰی اَنْ اَرْضِعِیْهِ فَاِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ
فَاَلْقِیْهِ فِی الْیَمِّ وَلَا تَخَافِیْ وَلَا تَحْزَنِیْ اِنَّا رَآدُّوْهُ
اِلَیْکِ وَجَاعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِیْنَ.

۳- پستانوں میں دودھ کی کمی ہو تو یہ آیت خمیری روٹی پر لکھ کر سات روز تک کھلائی جائے۔

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَانِ.

۴- اسم باری تعالیٰ **ھُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ** تین سو مرتبہ پڑھ کر دم کرنا دودھ کی کمی کو دور کرنے کے لئے بہت نافع ہے۔

۱۱۹- ورم پستان

اگر پستان پر ورم آ گیا ہو تو سورۂ اخلاص اور معوذتین دس دس بار پانی پر دم کر کے پلایا جائے انشاء اللہ ورم ختم ہو جائے گا۔

۲- پستان ورم کر گیا ہو تو یہ آیت پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے ورم شدہ جگہ پر پھیرا جائے۔

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنَ o قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ.

۱۲۰- سیلان الرحم

سیلان الرحم کی بیماری ہو گئی ہو تو تین سو مرتبہ یہ آیت عرق گلاب پر دم کر کے اکتالیس روز تک پلائی جائے انشاء اللہ مرض جاتا رہے گا۔

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ o وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ o بِحَقِّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ o

۱۲۱۔ کمی حیض

جسے حیض بہت کم مقدار میں آتا ہو اسے روزانہ سات سو مرتبہ یہ آیت زم زم پر دم کر کے ایک ہفتہ تک پلائی جائے اور اسی کو لکھ کر گلے میں بھی ڈالا جائے۔

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوَ شِفَآءٌ.

۲۔ حیض کی کمی کی بیماری ہو تو روزانہ تین سو اکتالیس مرتبہ یہ آیت زم زم پر دم کر کے گیارہ روز تک پلایا جائے۔

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِیْنَ○

۱۲۲۔ کثرت حیض

اگر حیض کا خون زیادہ مقدار میں آتا ہو تو یہ آیت لکھ کر پیٹ پر باندھا جائے۔

صُمٌّ، بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا یَرْجِعُوْنَ○

۲۔ حیض کا خون زیادہ آنے کی صورت میں سات دن تک سورۂ دھر پانی پر دم کر کے پلایا جائے۔ انشاء اللہ خون کا آنا بند ہو جائے گا۔

۳۔ تین سو تیرہ بار سورۂ کوثر روزانہ بارش کے پانی پر دم کر کے پلانا کثرتِ حیض کی بیماری میں بہت مفید ہے۔

۱۲۳- مسان

مسان کے مریض کو خالص سرسوں کے تیل پر ایک ہزار مرتبہ یہ آیت دم کر کے اکیس روز تک صبح وشام مالش کیا جائے۔

اَوَلَمْ یَرَوْ اَنَّ اللّٰہَ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ
وَلَمْ یَعْیَ بِخَلْقِھِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰی اَنْ یُّحْیِۦَ الْمَوْتٰی ط
بَلٰی اِنَّہٗ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٍ۔

۲- جسے مسان کی بیماری ہو اسے روزانہ گیارہ بار سورۃ والتین پانی پر دم کر کے گیارہ روز تک پلایا جائے۔

۳- فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اکتالیس مرتبہ الحَمْدُ لِلّٰہِ مع وصل بسم اللہ (یعنی بِسْمِ اللّٰہِ الرحمٰنِ الرَّحِیْمِ کی میم کو اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ میں ملا کر بِسْمِ اللہ الرحمنِ الرحیمِلْحَمْدُ لِلّٰہِ) پڑھ کر مٹھائی یا پانی پر دم کر کے مسان کے مریض کو کھلایا جائے انشاء اللہ مرض جاتا رہے گا۔

۱۲۴- خارش

ایک شخص کو خارش ہو گئی وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور اپنی بیماری کے بارے میں عرض کیا تو فرمایا کہ روزانہ صبح وشام اکیس مرتبہ یہ آیت پانی پر دم کر کے اکتالیس روز تک پیو بفضلہ تعالیٰ اس عمل سے وہ اچھا ہو گیا۔

فَکَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَاْنٰہُ خَلْقًا اٰخَرَ

فَتَبَارَکَ اللّٰہُ اَحۡسَنُ الۡخَالِقِیۡنَ۔

۲۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ صبح وشام سات سات مرتبہ سورہ قدر پانی پر دم کر کے پلانا خارش کے لئے مفید ہے۔

۱۲۵- جذام

ابن قتیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو جذام کا مرض ہو گیا تھا جس سے اس کا گوشت بھی کٹ کر گرنے لگا اس نے کسی بزرگ سے اپنی بیماری کے متعلق عرض کیا تو انہوں نے یہ آیت پڑھ کر دم کیا جس سے وہ بفضلہٖ تعالیٰ اچھا ہو گیا

وَاَیُّوۡبَ اِذۡ نَادٰی رَبَّہٗۤ اَنِّیۡ مَسَّنِیَ الضُّرُّ وَاَنۡتَ اَرۡحَمُ الرّٰحِمِیۡنَ۔

۲۔ اگر کوئی شخص صبح وشام فجر اور مغرب کے بعد تین بار سبحان العظیم وبحمدہٖ پڑھے تو جذام، لقوہ اور فالج سے محفوظ رہے گا۔

۱۲۶- برص

جسے برص کی بیماری ہو تو وہ ایام بیض میں روزہ رکھے اور ہر روز افطار کے وقت اسم باری تعالیٰ اَلۡمَجِیۡدُ بہ کثرت پڑھے تو انشاء اللہ وہ اچھا ہو جائے گا۔

۲۔ گیارہ مرتبہ یہ آیت گھونگچی کے تیل پر دم کر کے مبروص کو مالش کرنا نہایت مفید ومجرب ہے۔

ثُمَّ نَکْسُوْهَا لَحْماً فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَهٗ قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰہ
عَلٰی کُلِّ شَیْئٍ قَدِیْرٌ.

۳- اگر کسی کو برص ہوگیا ہو تو تین مرتبہ یہ آیت پڑھ کر دم کرنا بہت نافع ہے۔

بِسْمِ اللّٰہِ الرحمٰن الرحیم اَنِّیْ قَدْ جِئْتُکُمْ بِاٰیَةٍ مِّنْ
رَّبِّکُمْ اَنِّیْ اَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّیْنِ کَهَیْئَةِ الطَّیْرِ
فَاَنْفُخُ فِیْهِ فَیَکُوْنُ طَیْراً بِاِذْنِ اللّٰهِ وَاُنَبِّئُکُمْ بِمَا
تَاْکُلُوْنَ وَمَا تَدَّخِرُوْنَ فِیْ بُیُوْتِکُمْ اِنَّ فِیْ ذٰلِکَ
لَاٰیَةً لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ مُّؤْمِنِیْنَ.

۱۲۷- چیچک

اگر چیچک کی بیماری پھیل رہی ہو تو ایک نیلا دھاگہ لے کر اس پر سورۂ رحمان پڑھے اور ہر فَاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبَان۔ پر دھاگہ پر پھونک مار کر گرہ لگائے اور پھر اسے گلے میں ڈال دیا جائے انشاء اللہ چیچک سے محفوظ رہیں گے۔

۱۲۸- بخار

ہر طرح کے بخار میں اس دعاء کو تین دن تک روزانہ کاغذ پر لکھ کر صبح نہار منہ پلانا بہت مفید ہے۔

قُلْنَا یٰنَارُ کُوْنِیْ بَرْدًا وَّسَلٰماً عَلٰی اِبْرَاهِیْمَ.

۲- جب کسی کو بخار آجائے تو ان تینوں نقش کو علیحدہ علیحدہ تین کاغذ پر لکھ کر اس کا دھونی دینے سے انشاء اللہ بخار جاتا رہے گا۔

ااا طه ااا طط ااا لح لوم
کـــــ ـــــو کـــــ

۳- کسی کو تیز بخار ہو تو ان دعاؤں کو علیحدہ علیحدہ تین کاغذ پر لکھ کر روزانہ صبح ایک کاغذ کی گولی بنا کر کھالے بفضلہٖ تعالیٰ اچھا ہو جائے گا۔

ایک پر	بسم اللہ نارت واستنارت
دوسرے پر	بسم اللہ فی علم الغیب غارت
اور تیسرے پر	بسم اللہ حول العرش دارت

۴- اگر کوئی شخص بخار میں مبتلا ہو تو اس عمل کو کاغذ یا برتن پر لکھ کر مریض کے ماں اور باپ کا نام لکھے پھر اسے پانی سے دھو کر مریض کو پلایا جائے تو شدید بخار بھی انشاء اللہ جاتا رہے گا۔ مجرب ہے۔

سارا سارا الی سارا مالی یرن یرن الی
بامال وصال باطوطو کا العو مار اساب
یافارس اردباب ھا کان ما ابین
لھا تارا انار کاس متمرنا کاطن صلو
بیرص صار وب اثاوین ودی

۵- یہ نقش کسی کپڑے پر لکھ کر انڈے پر لپیٹ کر پکالے اور جسے بخار آتا ہو اسے کھلایا جائے۔ اور اس انڈا کا چھلکا اکٹھا کر کے ایک کپڑے میں

باندھ کر اس کے بازو میں باندھ دے۔ انشاء اللہ العزیز بخار سے شفاء پائے گا---------فلاں ابن فلاں کی جگہ مریض اور اس کے باپ کا نام لکھے نقش یہ ہے۔



۶- جس شخص کو گرمی سے بخار آتا ہو اسے یہ آیت پڑھ کر دم کیا جائے یا طشتری پر لکھ کر دھو کر پلایا جائے۔

اِنَّ الَّـذِيْـنَ اتَّـقَـوْا اِذَا مَسَّهُـمْ طٰٓـائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ.

۷- ان آیات شفاء کو طشتری پر لکھ کر دھو کر پلانا یا تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنا ہر طرح کے مرض میں بہت مفید ہے اگرچہ سخت مرض کیوں نہ ہو۔

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَشِفَـآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ يَخْرُجُ مِنْ بُطُوْنِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهٗ فِيْهِ شِفَـآءٌ لِّلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنَ قُلْ هُوَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هُدًى وَّشِفَآءٌ.

۸- حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بخار کے مریض کو یہ آیت لکھ کر

بندھواتے تھے جس سے صحت ہو جاتی تھے۔

يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيْفاً
اَلْاٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفاً رَبَّنَا
اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُوْنَ ان يَمْسَسْكَ اللّٰهُ
بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ الا هُوَ وَاِنْ يُّرِدْكَ بَخَيْرٍ فَلَا
رَآدَّ لِفَضْلِهٖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَئٍ قَدِيْرٌ ٥

۹۔ اگر کسی کو بخار آتا ہو تو تھوڑی سی روئی لے کر اس پر گیارہ بار درود شریف اور سات مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے اور مریض کے داہنے کان میں رکھے۔ پھر روئی کا دوسرے ٹکڑے لے کر اس پر پانچ مرتبہ سورۂ فاتحہ اور گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر دم کر کے بائیں کان میں رکھ دے۔ پھر دوسرے روز ٹھیک اسی وقت جس وقت پہلے روز روئی رکھی تھی دائیں کان کی روئی بائیں کان میں اور بائیں کان کی روئی دائیں کان میں رکھ دے۔ انشاء اللہ بخار جاتا رہے گا۔

۱۰۔ بخار کے مریض کے پشت پر اذان اور اقامت انگلی سے لکھ دے خدا تعالیٰ شفا دے گا۔

۱۲۹- پریشان خواب

جو نیند کی حالت میں پریشان خواب دیکھتا ہو وہ اس آیت کو لکھ کر گلے میں ڈالے یا سوتے وقت پڑھ لیا کرے تو انشاء اللہ خواب بد سے محفوظ رہے گا۔

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لَا
تَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ذٰلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ.

۲- سوتے وقت سورہ معارج پڑھ لے تو پریشان خواب سے محفوظ رہے گا۔

۱۳۰- بچہ کا نہ بولنا

اگر بچہ کی زبان نہ چلتی ہو تو سورۂ بَنِی اِسْرَائِیْل زعفران سے لکھ کر دھو کر پلایا جائے۔ انشاء اللہ زبان چل پڑے گی۔

۱۳۱- استخارہ

بعد نماز عشاء دو رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے پڑھ کر یہ دعاء خشوع وخضوع سے بارگاہ رب العزت میں کرے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُکَ بِعِلْمِکَ وَاسْتَقْدِرُکَ
بِقُدْرَتِکَ وَاَسْئَلُکَ مِنْ فَضْلِکَ الْعَظِیْمِ فَاِنَّکَ
تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ
اَللّٰهُمَّ اِنْ کُنْتُ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا الْاَمْرَ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ
وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ اَوْعَاجِلَ اَمْرِیْ وَاٰجِلِهٖ
فَیَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِکْ لِیْ فِیْهِ وَاِنْ کُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هٰذَا
الْاَمْرَ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَمَعَاشِیْ وَعَاقِبَةِ اَمْرِیْ اَوْ
عَاجِلِ اَمْرِیْ وَاٰجِلِهٖ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَاصْرِفْنِیْ عَنْهُ ثُمَّ

يَسِّرۡ لِيَ الۡخَيۡرَ حَيۡثُ كَانَ ثُمَّ اَرۡضِنِيۡ بِهٖ.

پھر اپنی حاجت کا نام لے اور یَا خَبِیۡرُ اَخۡبِرۡنِیۡ یَا عَلِیۡمُ عَلِّمۡنِیۡ کا ورد کرتے ہوئے دائیں کروٹ سو جائے انشاءاللہ خواب میں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔

۲۔ بعد نماز عشاء دو رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے کہ دونوں رکعت میں سورۂ فاتحہ کے بعد سورہ یٰسین ایک ایک بار پڑھے پھر سلام پھیر کر دو سو مرتبہ اسم باری تعالیٰ ''یَا خَبِیۡرُ'' پڑھے۔ پھر داہنی ہتھیلی پر یَا حَکِیۡم یَا مَجِیۡد لکھ کر سو جائے۔ نیند میں متعلقہ امور کے بارے میں ہدایت ملے گی۔

۳۔ دو رکعت نماز استخارہ کی نیت سے پڑھے اور سلام پھیر کر تین سو تیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تین سوئیس بار حَسۡبِیَ اللّٰہُ وَنِعۡمَ الۡوَکِیۡلُ پڑھ کر سو جائے انشاءاللہ غیب سے معلومات حاصل ہوں گی۔

۱۳۲۔ فضائل قرآن

آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھا کرو کیوں کہ یہ قیامت کے دن تمہارے لئے شفیع بن کر آئے گا اسی طرح آپ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور وہ اس کے ماہر ہیں اور تلاوت میں کہیں اٹکتے نہیں ہیں ان کا حشر معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن انھیں پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے اور رک رک پڑھتے ہیں تو ان کو دوگنا ثواب ملے گا لیکن معزز فرشتوں کے ساتھ اخروی

رفاقت بہر حال دو گنے ثواب سے افضل ہے اس لئے قرآن کی صحیح تلاوت ہر حال میں مطلوب و محمود ہے۔

عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعہ عمل کرنے اور نہ کرنے پر قوموں کو عزت اور ذلت دیں گے۔

یہ ارشاد بھی آپ ہی کا ہے کہ دو شخص قابل رشک ہیں ایک وہ جسے خدا تعالیٰ نے دولت قرآن عطا فرمائی اور وہ دن رات اس کی تلاوت میں لگا رہتا ہے اور دوسرا وہ جسے خدا تعالیٰ نے مال و دولت عطا فرمائی اور وہ برابر اللہ تعالیٰ کے راستہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کسی اور سے نہیں آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہی نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرتا جا اور درجات جنت پر چڑھتا جا اور قرآن کی اس طرح تلاوت کر جیسا کہ دنیا میں کرتا تھا جس آیت پر تیری تلاوت کا اختتام ہوگا وہی تیری منزل ہوگی۔

۱۳۳۔ خواص قصیدہ بردہ

قصیدہ بردہ کے فضائل اولیاء اللہ سے بیشمار منقول ہیں مگر اس جگہ عوام کے فائدہ کے لئے مختصر طور پر چند فضائل ذکر کئے جاتے ہیں۔

۱۔ عمر میں اضافہ کے لئے ایک ہزار مرتبہ اس کا پڑھنا مفید ہے۔

۲- دفع قحط کے لئے تین سو مرتبہ پڑھ کر دعا کی جائے۔

۳- مال و دولت میں برکت کے لئے سات سو مرتبہ پڑھنا اکسیر ہے۔

۴- فرزند پیدا ہونے کے لئے ایک سو سولہ بار پڑھنا نافع ہے۔

۵- دشمن کے ہلاکت کیلئے کسی پرانے قبرستان میں چالیس روز تک روزانہ اکتالیس مرتبہ پڑھنا مفید و مجرب ہے لیکن جائز موقع پر استعمال ہو۔

۶- جسے کوئی پریشانی پیش آئے وہ تین روزے رکھے اور روزانہ اسے اکیس مرتبہ پڑھے انشاء اللہ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔

۷- قوت حافظہ کے لئے سات دن تک روزانہ ایک مرتبہ عرق گلاب پر دم کر کے پلانا بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔

۸- اگر سفر میں ہو تو روزانہ ایک مرتبہ اسے پڑھ لیا کرے مصائب سفر سے محفوظ رہے گا۔

۹- ادائیگی قرض کے لئے ایک ہزار مرتبہ پڑھا جائے۔

۱۰- جو شخص سفر کے متعلق نفع و نقصان معلوم کرنا چاہے تو ایک ہزار مرتبہ درود شریف اور تین مرتبہ اسے پڑھ کر سو جائے انشاء اللہ خواب میں سفر کا نفع و نقصان معلوم ہو جائے گا۔

۱۱- جنات وغیرہ سے حفاظت کے لئے چالیس روز تک روزانہ ایک مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے۔

۱۲- بچہ پیدا ہو تو نو مرتبہ دریا کے پانی پر دم کر کے بچہ کو نہلایا جائے تو وہ بچہ ہر طرح کی بلا سے محفوظ رہے گا۔

۱۳- سہولت ولادت کے واسطے تین بار عرق گلاب پر دم کر کے پانی میں ملا کر عورت کو پلایا جائے اور تھوڑا سا کمر پر بھی مل دیا جائے۔

۱۴- قیدی اسے تین بار روزانہ پڑھا کرے تو رہائی ملے۔

۱۵- کسی زمین میں کھیتی نہ ہوتی ہو تو بیج پر دم کر کے بوئے انشاء اللہ خوب پیداوار ہوگی۔

۱۶- اگر کسی کھیت میں ٹڈی دل آجائے تو سات مرتبہ مٹی پر پڑھ کر وہ مٹی کھیت میں چھڑک دے جہاں جہاں وہ مٹی پہنچ جائے گی ٹڈی نقصان نہیں پہنچائے گی۔

غرضیکہ جس مقصد کے لئے بھی پڑھا جائے گا انشاء اللہ وہ مقصد حاصل ہوگا مگر اکل حلال اور صدق مقال کا خاص طور پر خیال رکھا جائے۔

۱۳۴- خواص حزب البحر

ابوالحسن الشاذلی قدس سرہٗ بحری جہاز میں سوار ہو کر حج کے لئے تشریف لے جا رہے تھے اچانک سمندر میں طغیانی آگئی اور جہاز پر سوار تمام مسافروں پر مایوسی چھا گئی۔ اسی عالم میں آپ کو مراقبہ میں۔ آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے یہ دعا بتائی جسے سید ابوالحسنؒ نے خود بھی پڑھا اور دوسرے مسافروں کو بھی پڑھنے کا حکم دیا۔ اس دعا کی برکت سے سمندر پرسکون ہو گیا اور ہوا موافق

چلنے لگی۔ جس سے تمام مسافر اپنی اپنی منزل مقصود کو پہنچ گئے۔ جہاز کا نصرانی کپتان اور دوسرے مذاہب والے اشخاص یہ کرامت دیکھ کر مشرف بہ اسلام ہو گئے۔

حزب البحر کی تمام دعائیں ماثورہ ہیں۔ جن کا احادیث سے ثبوت ملتا ہے خود شیخ ابوالحسنؒ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ حرف بہ حرف آنحضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کردہ ہیں۔

اس لئے جملہ مقاصد کے لئے پڑھنا مفید و مجرب ہے اس کا وقت عصر کے بعد ہے لیکن یہ ممکن نہ ہو تو پھر جب چاہے پڑھے لیکن متعین وقت پر پڑھے اگر قضاء ہو جائے تو آئندہ وقت ضرور قضا کرے۔

تمت الخیر

فہرست مضامین

عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
انتساب	۳	چوروں سے حفاظت	۲۷
مقدمہ	۴	کشائش رزق	۲۹
حکایتِ حال	۱۲	دعا کا مقبول ہونا	۳۵
حفاظت ایمان	۱۵	حاجت کا پورا ہونا	۳۷
اعمال خیر میں مشغولیت	۱۶	ادائیگی قرض	۴۳
زیارتِ رسول اکرمؐ	۱۶	غم کا دور ہونا	۴۶
ایمان پر خاتمہ	۱۷	پیداوار میں کثرت	۴۷
وسواس شیطانی سے حفاظت	۱۷	ٹڈی دَل سے حفاظت	۴۹
عذاب جہنم سے حفاظت	۲۰	کیڑوں سے حفاظت	۵۰
برائے شفاعت	۲۱	مچھروں سے حفاظت	۵۱
عذابِ قبر سے حفاظت	۲۱	چیونٹیوں سے حفاظت	۵۲
تجارت میں برکت	۲۱	برائے حفاظت	۵۳
برائے حصول رزق	۲۴	مال کا گم ہو جانا	۵۸
خواص حزب البحر	۲۵	مفرور کی واپسی	۶۰
حاسدین کے حسد و شر سے حفاظت	۲۶	زوجین کی محبت	۶۲
دشمنوں سے حفاظت	۲۶	اولاد ہونا	۶۴

برائے عقیمہ ۶۶
سہولتِ ولادت ۶۸
نس بندی ۷۰
حفاظت حمل ۷۳
اولاد نرینہ ۷۴
حفاظت اطفال ۷۵
بچہ کا زندہ رہنا ۷۷
برائے حب ۷۸
حاکم کے شر سے حفاظت ۸۱
ظالم کے ظلم سے پناہ ۸۳
اولاد کا مطیع ہونا ۸۵
برائے مقبولیت ۸۶
غلام کی سرکشی ۸۸
چوپایہ کی سرکشی ۸۸
چوپایہ کا عیب ۸۹
جنات سے حفاظت ۸۹
خوف وڈر ۹۳
دشمن سے حفاظت ۹۴
نظرِ بد ۹۷
موذی جانور سے حفاظت ۹۹
سانپ کا ڈسنا ۱۰۱
بچھو کا ڈنک مارنا ۱۰۵
کتے کا کاٹ لینا ۱۰۵
سردرد ۱۰۶
دردابرو ۱۰۹
ضعف دماغ ۱۰۹
نسیان ۱۱۰
بے خوابی ۱۱۱
زیادہ نیند آنا ۱۱۱
مرگی ۱۱۲
سرسام ۱۱۳
جنون ۱۱۴
ہذیان ۱۱۴
مالیخولیا ۱۱۴
آشوب چشم ۱۱۵
ناخونہ ۱۱۶

موتیابند	۱۱۶	درد گردن	۱۳۰
زخم چشم	۱۱۷	آماس گلو	۱۳۰
روہا	۱۱۷	ہچکی	۱۳۱
رتوندا	۱۱۸	درد سینہ	۱۳۱
ضعف بصر	۱۱۸	کھانسی	۱۳۱
درد کان	۱۱۹	درد پھیپھڑہ	۱۳۲
کان کا بہنا	۱۲۰	دمہ	۱۳۳
بہرا پن	۱۲۱	درد دل	۱۳۴
کان کا بجنا	۱۲۱	دل کا دھڑکنا	۱۳۴
نکسیر	۱۲۲	دل کا ڈوبنا	۱۳۵
نزلہ وزکام	۱۲۳	درد معدہ	۱۳۶
درد دانت	۱۲۳	بدہضمی	۱۳۷
درد داڑھ	۱۲۴	درد پیٹ	۱۳۸
دانتوں کا ہلنا	۱۲۶	دست	۱۳۹
نقصِ کلام	۱۲۷	قے	۱۴۰
زبان کی سوجن	۱۲۸	پیاس کی زیادتی	۱۴۱
لقوہ	۱۲۸	بھوک کی زیادتی	۱۴۲
منہ کی پھنسیاں	۱۲۹	درد جگر	۱۴۳
حلق کی خراش اور درد	۱۲۹	پتہ کی بیماری	۱۴۳

جلندر	۱۴۵	ورم پستان	۱۵۸
یرقان	۱۴۵	سیلان الرحم	۱۵۸
درد بازو	۱۴۵	کمی حیض	۱۵۹
درد گردہ	۱۴۶	کثرت حیض	۱۵۹
درد مثانہ	۱۴۷	مسان	۱۶۰
پیشاب کی بندش	۱۴۸	خارش	۱۶۰
پیشاب کی زیادتی	۱۴۹	جذام	۱۶۱
سوزاک	۱۴۹	برص	۱۶۱
آتشک	۱۵۰	چیچک	۱۶۲
جریان	۱۵۱	بخار	۱۶۲
نامردی	۱۵۱	پریشان خواب	۱۶۵
کثرت احتلام	۱۵۲	بچہ کا نہ بولنا	۱۶۶
بواسیر	۱۵۳	استخارہ	۱۶۶
درد ران	۱۵۴	فضائل قرآن	۱۶۷
درد پنڈلی	۱۵۵	فضائل قصیدہ بردہ	۱۶۸
پاؤں کے امراض	۱۵۵	فضائل حزب البحر	۱۷۰
درد انگلی	۱۵۶		
پستانوں کا عدم ابھار	۱۵۶	◆◆◆	
دودھ کی کمی	۱۵۷		

خطبۂ صدارت



نقش دوام

شاہ اکیڈمی، دیوبند (یوپی)



ملفوظات محدث کشمیری

بیت الحکمت دیوبند

خطبات کشمیری

بیت الحکمت دیوبند